

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هٰذِهِ سَبِیْلُیْ اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعَنِیْ

چوتھی صدی ہجری کے نامور محدث علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف

”شرف اصحاب الحدیث“

کا اردو ترجمہ

فضائل اہل حدیث

تالیف

حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی رحمہ اللہ

مترجم

الشیخ خالد گرجا کھی حفظہ اللہ

نظر ثانی

الشیخ عبدالعظیم حسن زکی حفظہ اللہ

حافظ عبدالحمید گوندل

ناشر

دارالتقویٰ کراچی فون: 7542251

﴿جملہ حقوق بحق دارالتقویٰ محفوظ ہیں﴾

نام کتاب :	فضائل الہمدیث
تألیف :	حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی رحمہ اللہ
مترجم :	الشیخ خالد گر جاکھی حفظہ اللہ
نظر ثانی :	الشیخ عبدالعظیم حسن زئی اور حافظ عبدالحمید گوندل حفظہما اللہ
اشاعت اول :	جمادی الثانی ۱۴۲۳ھ بمطابق ستمبر 2002ء
شائع کردہ :	دارالتقویٰ کراچی فون: 7542251

﴿ادارہ کی مطبوعات مندرجہ ذیل پتوں سے مل سکتی ہیں﴾

- ☆ الدار الراشدیہ نزد جامع مسجد الراشدی، موسیٰ لین، لیاری، کراچی۔ فون 7542251
- ☆ مکتبہ نور حرم 60 نعمان سینٹر بلاک 5 گلشن اقبال، کراچی۔ فون 4965124
- ☆ مکتبہ توحید، محمد جنید، دلی مسجد دہلی کالونی، کراچی۔
- ☆ علمی کتاب گھر، مین اردو بازار، کراچی۔ فون 2628939
- ☆ مکتبہ ایوبیہ، متصل محمد مسجد برنس روڈ، کراچی۔
- ☆ مکتبہ الہمدیث ٹرسٹ کورٹ روڈ، کراچی۔ فون 2635935
- ☆ مکتبہ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور۔
- ☆ مکتبہ قدوسیہ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔
- ☆ مکتبہ اسلامیہ، بھوانہ بازار، فیصل آباد۔ فون 631204
- ☆ جامع مسجد عثمان بن عفان سیکٹر 11/2-G۔ اسلام آباد۔
- ☆ مکتبہ دارالہدیٰ دکان نمبر 4 بالمقابل سروس اسٹیشن ڈگری کالج چوک، اصغر مال روڈ راولپنڈی
- ☆ تجلیات طیبہ، کشمیری بازار، راولپنڈی۔ فون 5535168۔

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
1	فہرست مضامین	
2	تعارف	7
3	حدیث	7
4	تدوین حدیث	7
5	فرعی اختلاف کا اثر	8
6	عباسی انقلاب کا اثر	9
7	ایک مغالطے کا ازالہ	10
8	حالاتِ مصنف	16
9	دیباچہ از مصنف	21
☆	پہلا باب	
10	رسول اللہ ﷺ کا اپنی حدیثیں حفظ کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کا حکم	28
11	رسول اللہ ﷺ کا فرمان میری حدیث پہنچاؤ اور مجھ پر جھوٹ نہ بولو	28
12	رسول اللہ ﷺ کا اس شخص کے لئے دعا کرنا جو حدیثیں پڑھے پڑھائے	29

13	رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ جو شخص میری امت میں سے چالیس	30
	حدیثیں حفظ کرے	
14	رسول اللہ ﷺ کا الہمدیث کی عزت کرنے کا حکم	30
15	اسلام پر غربت کا دور آنے کی خبر اور غرباء کو خوشخبری	31
16	امت کے ستر فرقے ہونے کی خبر	32
17	اہل حدیث کے عادل ہونے کی پیشین گوئی	33
18	رسول اللہ ﷺ کے خلفاء اہل حدیث ہیں	34
19	الہمدیث کے امانت دار ہونے کی پیش گوئی	35
20	الہمدیث کو رسول اللہ ﷺ کا قرب بوجہ کثرت درود	37
21	اہل حدیث طلباء کو بشارت نبوی ﷺ	38
22	اسناد کی فضیلت	39
23	الہمدیث رسول اللہ ﷺ کے امانت بردار ہیں	41
24	الہمدیث دین کے حامی اور دفاع کرنے والے ہیں	42
25	الہمدیث رسول اللہ ﷺ کے وارث ہیں	43
26	الہمدیث امت میں سے بہترین لوگ ہیں	43
27	الہمدیث ابدال اور اولیاء اللہ ہیں	45
28	الہمدیث نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا	45
☆	دوسرا باب	47

47	الہمدیث حق پر ہیں	29
47	الہمدیث نجات کے حقدار ہیں	30
50	طلب حدیث کی فضیلت	31
50	حدیث دین و دنیا کا نفع ہے	32
50	خلفاء کا الہمدیث کی سرپرستی کرنا	33
52	اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دلانا	34
52	مرتے دم تک احادیث لکھنے میں مشغول رہنا	35
53	اہل حدیث قوی دلائل والی جماعت ہے	36
54	الہمدیث سے محبت رکھنے والا اہل سنت ہے	37
55	الہمدیث کی مدح اور اہل رائے کی مذمت	38
58	حدیث و اہل حدیث کے فضائل	39
58	حدیث کا طلب کرنا سب عبادتوں سے افضل ہے	40
60	حدیث کا لکھنا پڑھنا نفل نماز اور روزوں سے افضل ہے	41
61	حدیث سے شفا حاصل کرنا	42
61	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روایت سے کیوں روکا اور اس کا صحیح مطلب	43
65	صحابہ و تابعین کے فرائین برائے اشاعت حدیث	44
67	شاہان اسلام کی روایت حدیث کی تمنا کرنا	45
69	الہمدیث کی مجلسوں کے سرور کا بیان	46

72	تیسرا باب	☆
72	الہادیث کی فضیلت میں بزرگانِ دین کے خواب	47
75	بعض روایات کا بیان جن سے کچھ لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور ان کا	48
	صحیح مطلب	
80	سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے قول کا صحیح مطلب	48
83	امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا صحیح مطلب	50
84	امام اعمش کے قول کا صحیح مطلب	51
87	امام ابوبکر عیاش کے قول کا صحیح مطلب	52
89	امام ابوبکر عیاش کا الہادیث کے فضائل بیان کرنا	53

عقائد، اعمال، فروع اور اصول میں وہ قرآن اور سنت ہی کو حجت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قلبی طور پر مطمئن تھے کہ حق وہی ہے جو ان کو کتاب و سنت سے ملا ہے۔ اسے کسی دوسری کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا بلکہ لوگوں کی کسوٹیاں اس پر آزمائی جانی چاہئیں۔

فرعی اختلاف

عبادات، معاملات وغیرہ میں فرعی اختلاف صحابہ اور تابعین میں موجود تھے۔ اس میں بعض

فضائل اہل حدیث 9

انفرادی آراء بھی پائی جاتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حج تمتع سے انکار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جہنمی کے تیمم سے انکار، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نماز میں تشبیک کرنا، قرآن عزیز کے متعارف مجموعہ پر اعتراض اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مہتہ الزکاح کے جواز کی طرف رجحان وغیرہ امور۔ مگر وہ ان چیزوں کو گوارا فرماتے تھے وہ سمجھتے تھے۔ ہر آدمی اپنے فہم اور علم کا پابند ہے۔ ان اختلافات کی بنیاد نہ تو عناد پر ہے نہ جامد تقلید پر۔ بلکہ اہل علم نے جو کچھ نیک دلی سے سمجھا اس پر عمل کر لیا۔ اہل حدیث نے فرعی اختلافات پر اپنے مسلک اور مکتب فکر کی بنیاد اسی روش پر رکھی۔ ائمہ تابعین کا بھی یہی طریق رہا۔ اس کا پتہ کتب حدیث، شروح حدیث اور فقہاء حدیث کی تصانیف سے تفصیلاً چل سکتا ہے کہ کس وسعت قلب سے ان اختلافات کو گوارا اور برداشت فرمایا گیا۔ اور اس اختلاف سے وحدت اسلامی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ عقائد اور اصول میں اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہوا اور اگر کہیں کوئی بدعی عقیدہ پیدا ہوا اسے دبا دیا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کا حروریہ سے مناظرہ (جامع فضل العلم ص 103/2 ص 196/2) اور سیدنا عمر کا صیغہ اسلمی کی سرکوبی سے واضح ہوتا ہے کہ عقائد میں اختلاف گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔

اہل حدیث کا مسلک بھی یہی تھا کہ فروع میں اپنی تحقیق پر عمل کیا جائے۔ اختلاف کو گوارا کیا جائے اس میں تشدد نہ کیا جائے اور اصول کی پوری پختگی سے پابندی کی جائے۔

عباسی انقلاب

دوسری صدی ہجری کے آغاز میں اموی حکومت کا چراغ گل ہو گیا اور اس کی جگہ عباسی حکومت نے لے لی۔ اور قلمدان وزارت پر قابض ہو گئے۔ فارسی عناصر آگے بڑھے عرب معتبوب ہو کر حکومت سے دور دور رہنے لگے۔ یونانی نظریات نے اسلامی روایات کو متاثر کرنا

فضائل اہل حدیث 10

شروع کیا۔ اسلامی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی تقلید اور جمود نے فرعی اختلافات کی سرپرستی شروع کی اور جمود کے سایہ میں چار مکاتب، اسلام کی ترجمانی کے ذمہ دار قرار پائے اور بتدریج تقلید کو واجب کہا جانے لگا۔

یہ دونوں امر مسلک اہلحدیث کے مزاج اور اس کے خمیر سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے ائمہ حدیث نے دونوں مقام پر علیحدگی اختیار کی بلکہ ضرورت اور استعداد کے مطابق اس سے تضاد فرمایا۔ ائمہ حدیث کی حیثیت افراط و تفریط میں برزخ اور مقام اعتدال کی رہی۔ عقائد میں فلاسفہ متکلمین کے غلو سے الگ تاویل کی ظلمتوں سے بچ کر انہوں نے کتاب و سنت کے دامن میں پناہ لی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کنانی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، وغیرہ کی مصنفات اسکی صریح شاہد ہیں کہ ان لوگوں نے فلسفہ اور علم کلام کو سمجھ کر اسی زبان اور اسی لہجہ میں ان کی کمزوریوں کو واضح فرمایا۔

صحاح ستہ اور فن حدیث کی دوسری کتابیں اس کی بین دلیل ہیں۔ محدثین احادیث کو بلا تعصب نقل کرتے ہیں۔ رجال کا تذکرہ بھی اسی انداز سے کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں عملاً کسی کو ترجیح ہو نقل میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ کلام اور فقہ کے علاوہ بھی ہر مقام اختلاف میں ان کے سوچنے کا یہی طریق ہے وہ اپنی تحقیقی راہ رکھتے ہیں جس میں حزم اور اعتدال ملحوظ رکھا گیا ہے۔

مغالطہ

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہلحدیث صرف ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے فن حدیث کو جمع کیا۔ اسانید اور متون کو حسب ضرورت مرتب اور مدون کیا۔

یقیناً ائمہ حدیث نے یہ خدمت بڑی جانفشانی سے کی اور اس پر بڑی محنت فرمائی۔ پوری تین صدیاں حفظ، ضبط تدوین اور علوم سنت کی اشاعت میں صرف فرمائیں دوسرے مکاتب فکر کے

فضائل اہل حدیث 11

علماء نے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا طحاوی، ترکمانی، بیہقی اور نابلسی کا نام ان میں سرفہرست ہے۔ موالک اور حنابلہ میں بڑے بڑے اکابر نے یہ خدمت سرانجام دی ہے۔ شکر اللہ مساعیہم یہ لوگ اس خدمت کے وقت بھی اپنے مکتب فکر کی رعایت نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ائمہ حدیث نے فن کی خدمت بے لاگ ہو کر فرمائی۔ سب کے لئے سنت کا مواد فراہم کیا اور اپنی سوچ کا انداز رسول اللہ ﷺ اور صحابہ اور تابعین کے انداز فکر پر رکھا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

ومن اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة وما لكاو الشافعي واحمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة

(منهاج السنة ص 256 ج 1)

اہل سنت کا ایک قدیم اور مشہور مذہب ہے جو ان ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد رحمہم اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے تھا۔ یہ صحابہ کا مذہب تھا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سیکھا تھا جو اسکی مخالفت کرے وہ اہل سنت کے نزدیک بدعتی ہے۔

حافظ سیوطی، ابوالقاسم لال کائی 418ھ سے نقل فرماتے ہیں:-

ثم كل من اعتقد مذهبا فاني صاحب مقالة التي اخذ بها فيتسب والي رايه يستند الا اصحاب الحديث فان صاحب مقالتهم رسول الله ﷺ فهم اليه ينتسبون و الي علمه يستندون و به يستدلون .

(صون المنطق ص 110)

ہر فرقہ اپنے مقتدا کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس کے علم سے سند لیتا ہے۔ لیکن

فضائل اہل حدیث ۱۲

الحدیث ان کے صاحبِ مقالہ اور مقتدا رسول اللہ ﷺ ہیں۔ وہ اپنی نسبت آپ ﷺ ہی کی طرف کرتے ہیں اور آپ ﷺ کے علم سے استدلال کرتے اور سند لیتے ہیں۔

اس مکتب فکر کا اعتراف خود محققین احناف کو بھی ہے چنانچہ علامہ چلیی کشف الظنون میں فرماتے ہیں۔

واكثر التصانيف في اصول الفقه لاهل الاعتزال المخالفين لنا في
الاصول ولاهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على
تصانيفهم . (مجمع قديم ص 89 ج 1)

اصول فقہ میں زیادہ تر تصانیف معتزلہ اور اہل حدیث کی ہیں۔ اول اصول میں ہماری مخالف ہیں اور دوسرے فروع میں۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی فرماتے ہیں:-

ثم المجتهدون من ائمة الامة محصورون في صنفين لا يعدون الى
ثالث اصحاب الحديث و اصحاب الراى.

(الملل والنحل على هامش كتاب الفصل لابن حزم ص 45 ج 2)

مجتہد وہی قسم کے ہیں۔ تیسری کوئی قسم نہیں۔ اہل حدیث اور اہل الرائے۔ اس قسم کی تصریحات مقدمہ ابن خلدون۔ حجة اللہ۔ تہبہات مشکل الحدیث ابن خوراک میں بکثرت ملتی ہیں۔

یہ مغالطہ کہ اہل حدیث صرف اصحاب فن کا نام ہے تعصب کی پیداوار یا قلت مطالعہ کا نتیجہ ہے۔

حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”شرف

فضائل اہل حدیث 13

اصحاب الحدیث، میں اسی مکتب فکر کے فضائل کو کسی قدر ربط سے لکھا ہے عقائد اور کلام میں ان کی مساعی اور فروع میں ان کی مقدس کوششوں کا تذکرہ فرمایا۔ اہل علم اس موضوع پر اتنا مواد یکجا مشکل پائیں گے۔ اسے ”دارالتقویٰ“ ارباب ذوق کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہے قارئین کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو ان سے اس مکتب فکر کے متعلق انصاف کی امید رکھتا ہے۔

پہلی صدی سے تیسری صدی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قلمرو میں حجاز سے فارس تک اور ادھر حدود شام اور اقضاء مغرب تک اصحاب الحدیث چھائے ہوئے تھے۔ تدوین حدیث کے مدارس جا بجا قائم تھے۔ آج جس دور میں سنت کو ہم سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں یہ اس دور کے اصحاب الحدیث کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ ایران اور افغانستان جہاں شیعیت اور حنفیت کا طوطی بولتا ہے، یہاں اس وقت گلستانِ نبوت کے ہزاروں عندلیب اپنے خوشنوا نغموں سے ان گلزاروں کو معمور کر رہے تھے۔ آج قدرت کی بے نیازیوں کا یہ عالم ہے کہ پورا ایران رض کے زیر نگین ہے جہاں کی ساری سر بلندیاں محرم کی سیدہ کو بی سے آگے نہیں بڑھ سکیں۔ افغانستان پر تقلیدی جمود کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ قرآن و سنت کا نام لینے پر بعض اصحاب حال کو ترک وطن کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ چوتھی صدی کے آخر 24 رجب 392ء میں پیدا ہوئے اس وقت قلتِ علم اور حکومت کے استبداد کی وجہ سے عساکر سنت پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مختلف فقہیں حکومتوں کی سرپرستی میں اپنے پاؤں جمارہی تھیں۔ مصر، شام، حجاز، عراق اور فارس سب جگہ اسلام کی ترجمانی ان مختلف مکاتب کے توسط سے ہو رہی تھی۔ حکومتیں عقیدت کی وجہ سے یا سیاسی عوامل کے سبب سے اس جامد دعوت کی سرپرستی پر مجبور تھیں۔

اور یہ بیچارے اصحاب الحدیث بادشاہی درباروں سے دور علم کی خدمت اور سنت کی

فضائل اہل حدیث ~~~~~
اشاعت کیلئے کسی اچھے وقت کے امیدوار اور منتظر تھے۔ لیکن یہ چوتھی صدی حریت فکر کی دعوت کیلئے کچھ زیادہ سازگار نہ تھی۔

ان حالات سے متاثر ہو کر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو ”شرف اصحاب الحدیث“ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ائمہ اربعہ کی اتباع میں بڑے اصحاب کمال اور ارباب علم و تقویٰ موجود تھے۔ جن کی خدمات ملی کے سامنے آنکھیں جھکتی ہیں اور سرنگوں ہوتا ہے لیکن اصحاب الحدیث اس انداز فکر سے مطمئن نہ تھے۔ وہ ان شخصی پابندیوں کو کسی قیمت پر بھی پسند نہیں کرتے تھے نہ ہی وہ ان موشگافیوں کو پسند فرماتے تھے جو عقائد میں متکلمین اسلام نے پیدا کی تھیں۔ فروع فقہیہ میں جہاں اجتہاد کی ضرورت تھی وہاں ان مقلدین نے تقلید اور جمود کو ضروری سمجھا اور تلفیق سے گھبرانے لگے۔ اور عقائد میں جہاں صرف نصوص پر قناعت کر کے کتاب و سنت سے تمسک ضروری تھا وہاں فکر و نظر کے ایسے سیلاب بہائے کہ ایمان و دیانت کی حدود کو بسا اوقات مسمار کر کے رکھ دیا

وہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا

محدثین اس قلب حقائق کو پسند نہیں فرماتے تھے جس کی داغ بیل چوتھی صدی میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے سامنے رکھی گئی انہوں نے فقہ العراق پر اس انداز سے تنقید کی کہ اس کی تلخی آج بھی داعیان تقلید و جمود محسوس کر رہے ہیں۔

اس وقت فتنہ عقائد فلسفہ اور کلام کی صورت میں تھا۔ آج ارباب جمود نے عقائد کے ایسے باب کو کھولا ہے جس کا کتاب و سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ فقہاء عراق رحمہم اللہ بھی اس سے نا آشنا تھے۔ قدامتکلمین اس سے بے خبر تھے یہ ساری بے اعتدلیاں محدثین کے معتدل طریق فکر کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہیں جسکی دعوت امام ابو بکر خطیب نے شرف اصحاب الحدیث میں دی ہے۔

فضائل اہل حدیث ۱۵

شرف اصحاب الحدیث کے عربی متن کی اشاعت جمعیۃ اہل الحدیث نے پہلے کی ہے
اب ترجمہ آپکی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق مرحمت
فرمائے۔

عبدہ
خالد بن نور السلفی
کان اللہ

مختصر حالات

امام ابوبکر الخطیب البغدادی رحمہ اللہ

نام۔ احمد بن علی

کنیت۔ ابوبکر

لقب۔ خطیب

وطن۔ بغداد

پیدائش۔ 392 ہجری

وفات۔ 463 ہجری

امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ (جلد 3 صفحہ 312) میں فرماتے ہیں:

خطیب بغدادی رحمہ اللہ بڑے حافظ، امام اور شام و عراق کے محدث تھے۔ آپ کے

والد بھی بہت بڑے محدث اور زنجان کے خطیب تھے۔ کنیت ابوبکر اور نام احمد بن علی

بن ثابت ہے۔ 24 جمادی الاخریٰ 392ھ بروز جمعرات بغداد میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی تعلیم سے آپ گیارہ سال کی عمر میں فارغ ہو گئے۔ پھر طلب علم حدیث میں

لمبے لمبے سفر کئے۔ اور اس فن میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔

ان کے شاگرد ابن ماکولا کہتے ہیں:

خطیب رحمہ اللہ حدیث نبوی کی معرفت، حفظ، ضبط، اتقان اور حدیثوں کی علتوں اور

سندوں کے جاننے اور صحیح و غریب مضرو منکر اور ساقط کے معلوم کرنے میں ان خاص

لوگوں میں تھے جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کے بعد خطیب جیسا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ اور شاید خطیب نے خود بھی اپنے جیسا کسی کو نہ پایا ہوگا۔
ابو اسحق شیرازی کہتے ہیں:

خطیب رحمہ اللہ حدیث کو پہچاننے اور یاد رکھنے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کے مثل تھے۔
حافظ سمعانی نے فرمایا:

خطیب رحمہ اللہ ہیبت اور وقار والے ثقہ، مستعد، خوشخط، بڑے ضابط اور فصیح تھے
حافظوں کا ان پر خاتمہ ہو گیا۔
ابن شافع نے کہا:

علوم حدیث میں حفظ و اتقان کا خطیب پر خاتمہ ہو گیا۔

سمعانی کہتے ہیں:

خطیب رحمہ اللہ کی 52 تصنیفات ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تاریخ ابن خلکان میں مرقوم ہے کہ خطیب رحمہ اللہ کی تقریباً 100 کے قریب تصنیفات ہیں اور اگر ان کی تصنیف سوائے تاریخ بغداد کے اور کوئی بھی نہ ہوتی تو صرف یہ تاریخ ہی ان کے فضل اور وسعت معلومات کی شہادت کے لئے کافی تھی تذکرۃ الحفاظ میں آپ کی بعض تصانیف کے نام بھی ہیں ان میں اس کتاب ”شرف اصحاب الحدیث“ کا ذکر بھی ہے۔

شجاع دہلی نے کہا کہ خطیب بغدادی امام تھے مصنف تھے ان جیسا کوئی نہ تھا۔

فضل بن عمر نسوی کہتے ہیں میں جامع منصور میں امام خطیب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک علوی آیا اور امام صاحب سے عرض کی کہ یہ تین سو دینار ہیں آپ اسے قبول فرمائیے اور اپنی ضرورت میں خرچ کریں آپ نے نہایت لاپرواہی سے انکار کر دیا اس نے ان دیناروں کو آپ کی جائے نماز پر ڈال دیا آپ جھلا کر جائے نماز جھاڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ شخص

اپنا سامنہ لے کر اپنے دینار سمیٹ کر چل دیا۔

ابوزکریا تیری کا بیان ہے کہ میں جامع دمشق میں پڑھتا تھا اور مسجد ہی کے ایک حجرہ میں رہتا تھا کبھی کبھی امام خطیب رحمہ اللہ میرے پاس تشریف لاتے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے مجھ سے فرماتے دیکھو بھائی ہدیہ قبول کرنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ایک پڑیا میرے سامنے رکھ کر چلے جاتے میں اسے کھولتا تو اس میں پانچ اشرفیاں نکلتیں جو آپ مجھے قلم دوات کے خرچ کے لئے دے جایا کرتے تھے۔

آپ خوش آواز بلند لہجہ تھے جس وقت جامع مسجد میں احادیث پڑھتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی الفاظ حدیث کے اعراب ظاہر کر کے نہایت صحت کیساتھ پڑھتے تھے۔ حج کے زمانہ میں جب آپ چاہ زمزم کے پاس پہنچتے ہیں تو اس حدیث کو یاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جائے اسے پورا کرتا ہے۔

آپ تین مقصد دل میں رکھتے اور تین مرتبہ زمزم کا پانی پیتے:

ایک تو یہ کہ تاریخ بغداد آپ لکھ سکیں

دوسرے یہ کہ بغداد کی مشہور جامع منصور میں آپ درس حدیث دیں۔

تیسرے یہ کہ بشرحانی کے پڑوس میں آپ دفن ہوں آپ کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوں۔ دس ضخیم جلدوں میں آپ نے تاریخ بغداد لکھی۔ جامع بغداد کے آپ مدرس بنے اور انتقال کے بعد آپ کی تربت بھی وہیں ہوئی جہاں آپ کی دعا تھی۔ آپ کا مرتبہ حکومت کی نظر میں اتنا بڑا تھا کہ رئیس الروساء نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص وعظ اور خطبہ وغیرہ میں حدیث بیان نہ کرے جب تک کہ امام خطیب رحمہ اللہ سے اجازت نہ حاصل کر لے۔ کیونکہ حدیث کی پرکھ میں آپ کو کمال حاصل تھا۔

یہودیوں نے خلیفہ اسلام کے سامنے ایک عہد نامہ پیش کیا۔ جس کا مضمون یہ تھا کہ یہود ان

خیبر سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس عہد نامہ پر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دستخط تھے اور عہد نامہ نبی ﷺ کا کیا ہوا بتلایا جاتا تھا سلطنت میں ایک کھلبلی مچ گئی آخر امام خطیب رحمہ اللہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا آپ نے بیک نگاہ دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ جعلی ہے۔ یہودیوں کی شرارت ہے۔ انہوں نے خود اسے بنا لیا ہے۔ آپ سے ثبوت طلب کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اس پر ایک گواہی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فتح خیبر 7ھ میں ہوا اور امیر معاویہ اس وقت اسلام بھی نہیں لائے تھے وہ 8ھ میں فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے تھے پھر ان کے دستخط اس عہد نامہ پر جو ان کے اسلام سے ایک سال قبل لکھا گیا کہاں سے آگئے؟ علاوہ ازیں دوسری شہادت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حالانکہ جنگ خیبر سے پہلے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ 5ھ غزوہ خندق کے زمانہ میں انتقال ہوا اور 7ھ میں خیبر کی زمینیں رسول اللہ ﷺ کے قبضہ میں آئیں۔ تو اپنے انتقال کے دو سال بعد وہ کسی عہد نامہ پر دستخط کیسے کرتے؟

یہ ایک واقعہ ہی نہیں اس جیسے بیسیوں واقعات نے دنیا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ باور کر لیں کہ امام خطیب رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بے مثل امام اور زبردست علامہ اور لاثانی محدث تھے۔ باوجود اس علم و فضل اور زہد و قناعت، بے نفسی اور بے غرضی کے آپ بڑے سخی تھے۔ محدثین اور طلبہ حدیث کے ساتھ عموماً اچھا سلوک کرتے تھے۔ انتقال سے پہلے اپنا تمام مال محدثین پر تقسیم کر دیا۔ اپنی تمام کتابیں راہ اللہ وقف کر دیں۔ علم حدیث کے تقریباً ہر فن میں آپ کی کوئی نہ کوئی تصنیف ہے آپ کی تصانیف کی عام مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج تمام علماء اور طلباء ان کے یکسر محتاج ہیں مخلوق ان کی تصانیف کی طرف مائل ہے۔ بڑے بڑے بلند پایہ شعراء نے آپ کی تصانیف کی تعریف میں زور قلم دکھایا ہے اور ان کی حلاوت کو، ان کی لذت کو، ان کی تحقیق کو، اور ان کی خوش اسلوبی اور حسن بیان اور بلند پایہ تحقیق کو نہایت پسند کیا ہے اور بہت تعریف کی ہے بلکہ دنیا کی کسی چیز کو وہ اتنا محبوب نہیں سمجھتے جتنی محبت انہیں امام خطیب رحمہ اللہ کی تصانیف سے ہے۔

فضائل اہل حدیث 20

امام خطیب رحمہ اللہ ماہ رمضان کے نصف میں 463ھ میں بیمار ہوئے۔ اول ذی الحجہ کو حالت نازک ہو گئی اور 7 ذی الحجہ کو انتقال ہو گیا۔ جنازہ کی نماز قاضی ابوالحسین نے پڑھائی اور آپ اپنی مقبول دعاء اور دلی تمنا کے مطابق بشرحانی کی قبر کے پاس دفن کئے گئے۔ ان کے جنازے کے آگے ایک جماعت یوں پکارتی جاتی تھی یہ وہ شخص ہے جو حدیث نبوی سے اعتراض کو دفع کرتا تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے کذب کو دور کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جو حدیث پیغمبر کے حافظ تھے۔ ان کا جنازہ اٹھانے والوں میں ابوالفتح شیرازی بھی تھے۔

علی بن حسین کہتے ہیں کہ خطیب کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے اس سے خطیب کا حال پوچھا اس نے کہا وسط جنت میں جاؤ وہاں نیکوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ نیز بعض صلحاء نے خواب میں دیکھ کر آپ کا حال پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ آرام و آسائش اور نعمت والی جنت میں ہوں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شرح منجہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث کے ہر فن پر خطیب رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب موجود ہے۔

حافظ ابن نقطہ نے سچ فرمایا ہے کہ ہر مصنف کو علم ہے کہ محدثین خطیب رحمہ اللہ کے بعد انہی کی کتابوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے۔

ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ امام خطیب رحمہ اللہ مصنف شرف اصحاب الحدیث خاص خدمت حدیث کیلئے ہی پیدا کئے گئے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ (رحمۃ اللہ علیہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿وَصَلَّى اللہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَسَلَّمَ﴾

شیخ امام حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-
 سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہیں جس نے اپنے برگزیدہ مخلوق کے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اور اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں کی معرفت اس دین کو بھیجا۔ اور ہمیں ان کی شریعت و ملت کا پابند اور اپنے نبی کے حریم سے مدافعت کرنے والا اور آپ کی سنتوں کا عامل بنایا۔ ہم اس کی ایسی حمد و ثناء کرتے ہیں، جس کے وہ لائق ہے ہم اسی سے بھلائی اور نیکی چاہتے ہیں اور ہم اس کے فضل کی زیادتی کے لئے اسی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ خاتم النبیین ہمارے سردار تمام انبیاء سے افضل اور تمام مخلوق سے بہتر محمد رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجے۔ اور آپ کے بہترین اور بزرگ صحابہ پر اور قیامت تک جو بھی بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد اللہ عز و جل تمہیں بھلائوں کی توفیق دے۔ اور ہم سب کو بدعتوں اور شک و شبہ سے بچائے تم نے جو ذکر کیا کہ مبتدعین لوگ سنت اور احادیث کے پابند لوگوں پر عیب گیری کرتے ہیں۔ اور حدیث کے پڑھنے اور یاد کرنے والوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ پاک نفس سچے ائمہ سے صحیح طور پر نقل کرتے ہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور ملحدین کی باتیں لے کر حق والوں کا مذاق اڑاتے ہیں (کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی گمراہی میں اور بڑھاتا ہے اور وہ سرکش ہوتے جاتے ہیں) تو جان لو کہ خواہش کے پیروکار لوگ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سیدھی راہ سے بہکادیا ہے ان کا یہ کام کوئی تعجب خیز امر نہیں۔ ان کی ذلت تو اسی سے ظاہر ہے کہ انہیں نہ تو قرآن کریم کے احکام پر نظر ہے نہ اس کی کھلی آیتیں ان کی دلیل ہیں۔ بلکہ ان لوگوں نے حدیث رسول ﷺ کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اللہ کے دین

میں اپنی رائے اور قیاس کو دخل دیدیا۔ ان کے نوعمر لوگ ہزلیات میں پڑ گئے۔ اور ان کے عمر رسیدہ لوگ فضولیات اور حجت بازی میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنا لیا اور ہلاکت کے گڑھے میں اور شیطان کے پھندوں میں اپنی جانیں ڈال دیں۔ شک و شبہ کی وجہ سے حق اٹھ گیا اور وہ اس حالت کو پہنچ گئے کہ احادیث رسول ﷺ کی کتابیں اگر انکے سامنے پیش کی جائیں تو انہیں ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور دیکھے بغیر منہ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اور ان عمل کرنے والوں اور ان کی روایت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ محض دین حق کی دشمنی اور مسلمانوں کے قابل احترام اماموں پر طعنہ زنی کر کے۔

لطف تو یہ ہے کہ یہ لوگ عوام میں بیٹھ کر بڑے فخر سے ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہماری تو عمر علم کلام میں گزری۔ اپنے سوا یہ تمام لوگوں کو گمراہ جانتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بس نجات وہی پائیں گے۔ اس لئے کہ وہ کسی کی نہیں مانتے اور خود کو عدل و توحید والے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی توحید، شرک والحاد ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک اس کی مخلوق میں سے اوروں کو بھی بناتے ہیں۔ ان کے عدل کو بھی اسی طرح اگر جانچا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح اور ٹھیک راستے سے ہٹ کر کتاب و سنت کے مضبوط احکام کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ایسے علم کے محتاجوں کو جب کبھی کسی مسئلہ کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی فقہ کے جاننے والے کی طرف لپکتے ہیں۔ اسی سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں اور اسی کے قول پر عمل کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ پھر اسی فتوے کو دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور پورے مقلد ہو جاتے ہیں حالانکہ خود کو محقق سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے اقوال کو چمٹ جاتے ہیں بس ادھر فتویٰ صادر ہوا ادھر ان کا عمل شروع ہوا۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ ان کے فتوے غلط ہوں۔ اور ان میں غور و خوض کی ضرورت ہو ہم نہیں سمجھتے کہ تقلید کو حرام جان کر پھر بھی..... کیوں حلال کر لی جاتی ہے؟ اور ایک گناہ کو کبیرہ جانتے ہوئے پھر اسے کس طرح آسانی سے کرنے لگتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز دنیا اور آخرت

میں کوئی نفع نہ دے سکے اسے پھینک دینا اور احکام شریعت پر کاربند ہو جانا ہی زیادہ مناسب اور افضل ہے۔

ہمیں بہ سند امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ وہ اس حجت بازی کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ایک بڑھ بولا شخص آج ہمارے پاس آیا ہم نے اس کی مانی پھر اس سے زیادہ تیز زبان کوئی اور آیا اس کی مانی تو پھر جبرئیل علیہ السلام جو وحی لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے وہ تو سب رد ہو جائیگی۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے کہ دین اسلام کو جو شخص علم کلام میں ڈھونڈے وہ بے دین ہے۔ اور جو عجیب و غریب حدیثوں کے پیچھے پڑ جائے وہ جھوٹا ہے۔ اور جو کیمیا سے مال تلاش کرے وہ مفلس ہوگا۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ دین صرف احادیث میں ہے رائے قیاس میں نہیں۔

فضل بن زیاد نے امام مالک رحمہ اللہ سے کراہیسی اور اس کے خیالات کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ یہ جو دفتر کے دفتر ان لوگوں نے رائے قیاس کے لکھ لئے ہیں انہی سے دین پر مصیبت آئی ہے۔ انہی کتابوں کی وجہ سے احادیث رسول ﷺ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد کے خلفاء نے جو طریقے فرمائے ہیں انہیں مضبوط تھا منا ہی اللہ عز و جل کی کتاب کی تصدیق ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری یہی اس کے دین کی قوت ہے۔ سنت پر عمل کرنے والا ہدایت والا ہے۔ اسے تھامنے والا غالب ہے۔ پیچھے ڈالنے والا مسلمانوں کی راہ سے ہٹا ہوا اور برائی میں پھنسا ہوا ہے۔

امام اوزاعی فرماتے ہیں بزرگان سلف سے جو احادیث منقول ہیں انہی پر عامل رہو اگرچہ

لوگ تمہیں چھوڑ دیں لوگوں کی رائے اور قیاس کی تابعداری سے بچو۔ اگرچہ وہ اپنی باتوں کو بنا سنوار کر کے پیش کریں اگر ایسا کرو گے تو آخر دم تک سیدھی راہ پر قائم رہو گے۔

امام یزید بن ذریع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رائے قیاس کرنے والے اور اس پر چلنے والے لوگ سنت رسول ﷺ اور احادیث پیغمبر ﷺ کے دشمن ہیں۔

امام خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رائے قیاس جیسی مذموم چیز والے لوگ ان علوم میں اپنے آپ کو مشغول کرتے جو انہیں نفع پہنچا سکتے اور اگر یہ لوگ رسول رب العالمین ﷺ کی حدیثیں طلب کرتے اور فقہاء اور محدثین کے آثار کی اقتداء کرتے تو وہ خود دیکھ لیتے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ حدیثیں انہیں رائے قیاس سے بے نیاز کر دیتیں اس لئے کہ علم حدیث میں اصول، توحید، وعدے، وعید، رب العالمین کی صفیتیں، جنت و دوزخ کا ذکر، اچھے برے لوگوں کا انجام، آسمان و زمین کے عجائبات، ملائکہ مقربین کا ذکر، صف باندھ کر عبادت کرنے والے، تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے فرشتوں کا بیان، نبیوں اور رسولوں کے واقعات، زاہدوں اور اولیاء اللہ کا ذکر، بہترین نصیحتیں اور وعظ سمجھ بوجھ والے بزرگوں کے کلام، عرب و عجم کے بادشاہوں کی سوانح، اگلی امتوں کے قصے، رسول اللہ ﷺ کے واقعات، جہاد و جنگ، آپ کے احکام، آپ کے فیصلے، آپ کے وعظ اور خطبے، آپ کی نبوت کی نشانیاں اور معجزے، آپ کی بیویوں کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، اصحاب کے احوال، ان کے فضائل و مناقب، اخبار، ان کے نسب نامے، ان کی عمریں، قرآن کریم کی تفسیر، اس کی خبروں اور اس کی نصیحتوں کا بیان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احکام اسلامی میں محفوظ فیصلے، ائمہ کرام اور فقہاء مجتہدین میں سے کون کون کس کس کے قول کی طرف مائل ہے وغیرہ تمام باتیں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو شریعت کے ارکان بتائے ہیں۔ انہی کے ہاتھوں ہر بری بدعت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں یہ اللہ کے امین ہیں۔ نبی ﷺ اور آپ کی امت کے درمیان

فضائل اہل حدیث

واسطہ ہیں آپ کے دین کے حفظ اور یاد کرنے میں پورا اٹھنا اور کامل کوشش کرنے والے ہیں۔ انکے انوار روشن ہیں۔ انکے فضائل مشہور ہیں۔ ان کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ ان کا مذہب پاک ہے۔ ان کی دلیلیں پختہ ہیں۔ ہر فرقہ کسی نہ کسی خواہش کی تابعداری میں پڑا ہوا ہے اور کسی نہ کسی کی رائے قیاس کو اچھا جان کر اس پر جم گیا ہے۔ لیکن اہلحدیث کی جماعت ہے کہ ان کا ہتھیار صرف کتاب اللہ ہے اور ان کی دلیل صرف حدیث رسول اللہ ﷺ ہے۔ ان کے امام صرف اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی نسبت بھی صرف محمد ﷺ ہی کی طرف ہے (یعنی محمدی) وہ خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وہ رائے قیاس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کے روایت کر نیوالے ان کے امین اور نگہبان ہیں۔ یہ دین کے محافظ اور اس کے نگہبان ہیں۔ یہ علم سے بھرپور ظروف اور صحیح علم والے ہیں۔ جس حدیث میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ وہی کریں گے۔ انہی کا حکم سنا جائیگا اور مانا جائیگا۔ سمجھدار علماء، بلند پایہ فقہاء، کامل زاهد، پورے فاضل، زبردست قاری، بہترین خطیب یہی ہیں جمہور عظیم انہی کو کہا جاتا ہے۔ انہی کی راہ سیدھی ہے۔ بدعتیوں کو رسوا کرنے والے یہی ہیں۔ ان کے مخالفین اپنے عقائد کے اظہار پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ فریب کرنے والوں کو اللہ نیچا دکھائے گا۔ ان سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریگا۔ ان کی برائی چاہنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہیں چھوڑنے والے ہرگز فلاح نہیں پاسکتے۔ ہر وہ شخص جو اپنے دین کا بچاؤ چاہتا ہو ان کے ارشادات کا محتاج ہے۔ ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں کی بینائی ضعیف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔

نبی ﷺ فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ ان کا مددگار ہوگا ان کے دشمن انہیں ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے مراد جماعت اہلحدیث ہے جو لوگ رسول اللہ ﷺ کا دین مانتے ہیں اور آپ کے علم کی حفاظت کرتے ہیں

اگر یہ نہ ہوتے تو ہم معتزلہ، رافضیہ، جہمیہ، مرجیہ اور رائے قیاس والوں کے سامنے کوئی حدیث پیش نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصور جماعت دین کی نگہبان بنائی ہے اور دشمنانِ دین کے ہتھکنڈے بے اثر کر دئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ شرع متین کو مضبوط تھا منے والے اور صحابہ اور تابعین کی روش پر قائم ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ حدیثوں کو حفظ کریں اور اسکی تلاش میں تری خشکی، جنگل اور پہاڑ چھان ماریں۔ نہ کسی کی رائے قیاس کو دل میں وقعت دیں نہ کسی کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کریں۔

یہی وہ جماعت ہے جس نے سنت رسول ﷺ کو زبانی بھی یاد کیا اور عمل بھی اسی پر رکھا۔ جنہوں نے دل میں بھی اسی کو جگہ دی اور نقل بھی اسی کو کیا۔ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دکھایا حقیقتاً یہ انہی لوگوں کا حصہ تھا اور یہی اس کے اہل تھے۔ بہت سے ملحدوں نے ہر چند چاہا کہ اللہ کے دین میں خلط ملط کریں لیکن اس پاک جماعت کی وجہ سے ان کی کچھ نہ چل سکی ارکانِ دین کے محافظ امر دین پر قائم یہی لوگ ہیں۔ جب کبھی موقع آجائے یہ حدیث رسول ﷺ کے بچاؤ کے لئے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر باہر نکل آتے ہیں یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں اور یقیناً یہ اللہ کا لشکر ہی فلاح پائے گا۔

ایک اور حدیث میں اتنی زیادتی بھی آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس علم حدیث کو ہر بعد والے زمانے میں عادل لوگ لیں گے۔ جو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی اور باطل پرستوں کی حیلہ جوئی اور جابلوں کی معنی سازی اس سے دور کرتے رہیں گے۔

احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ دو جماعتوں کے درمیان تشریف فرما ہیں ایک حلقہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں اور دوسرے میں ابن ابی داؤد ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ قرآن کی آیت **فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ** (یعنی اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں پڑھتے ہیں) اور آپ اشارہ کرتے ہیں ابن داؤد

فضائل اہل حدیث ۲۷

اور اس کے ساتھیوں کی طرف جو اہل الرائے تھے۔

پھر پڑھتے ہیں فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (الانعام: 89) (یعنی ہم نے ایک ایسی قوم بھی اس کی طرفدار بنائی ہے جو اس کے ساتھ کبھی کفر نہیں کرے گی)، اور آپ اشارہ کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔

امام خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب تاویل مختلف الحدیث میں بدعتی گروہ جو اعتراضات اہلحدیث پر کرتے ہیں انہیں بیان کر کے ان کا پورا جواب دیتے ہیں جو کہ ہر اس شخص کو جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی جانب سے توفیق والا ہو تو کافی دانی ہیں۔

میں بھی اپنی اس کتاب میں ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا کہ نبی ﷺ نے کس طرح لوگوں کو اپنی حدیثیں پہنچانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور کیسی کیسی رغبتیں انہیں دلائی ہیں۔ آپ کی حدیثیں نقل کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ پھر میں اس بارے میں صحابہ اور تابعین اور علماء دین سے بھی جو کچھ وارد ہے اسے بیان کروں گا جس سے اہلحدیث کے فضائل ان کے درجات ان کے مناقب اور ان کی بزرگیاں معلوم ہوں گی۔

اللہ عزوجل سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے نفع دے اور انہیں کے طریقہ پر زندہ رکھے اور اسی پر مارے۔ اور انہیں کے ساتھ حشر کرے۔ وہ خبر رکھنے والا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

پہلا باب

رسول اللہ ﷺ کا اپنی حدیثیں حفظ کرنے اور انہیں دوسروں کو پہنچانے کا حکم

﴿رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ میری ایک حدیث بھی یاد ہو تو پہنچا دو﴾

﴿اور مجھ پر جھوٹ نہ بولو﴾

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری ایک ہی حدیث یاد ہو تو بھی پہنچا دو۔ بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہے۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج

بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میری حدیثیں روایت کرو اور مجھ پر جھوٹ نہ بولو (اس حدیث کو علامہ خطیب رحمہ اللہ نے قریباً دس بارہ سندوں سے بیان فرمایا ہے)

﴿رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ حاضر شخص غیر حاضر کو پہنچا دے﴾

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الا فلیبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ یبلغه او عنی له من سامع.

خبردار ہو جاؤ ہر حاضر کو چاہئے کہ وہ غیر حاضر کو پہنچا دیا کرے بعض وہ لوگ جنہیں پہنچایا جائے پہنچانے والے سے بھی زیادہ نگہداشت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری سند میں اتنی زیادتی ہے

سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ليبلغ الشاهد الغائب

تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ یہ حدیث تو طویل ہے لیکن یہاں مختصر بیان کی گئی ہے۔

ابو حاتم رازی فرماتے ہیں علم کو پھیلانا ہی علم کی زندگی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں سنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایماندار کا توبہ بجاؤ ہے۔ اور صدی اور ملحد شخص پر اللہ کی حجت ہے۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بدعتیں نکلتی ہیں اور اہل علم خاموش رہتے ہیں تو آگے چل کر وہ سنت سمجھی جانے لگتی ہے (اس حدیث کو علامہ خطیب رحمہ اللہ نے آٹھ سند سے بیان فرمایا ہے)۔

﴿رسول اللہ ﷺ﴾ کا اس شخص کے لئے دعا کرنا جو حدیثیں پڑھے پڑھائے ﴿﴾
 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تروتازہ
 رکھے اس شخص کو جو ہماری حدیثیں سنے انہیں حفظ کرے پھر جس طرح سنا اسی طرح پہنچا دے
 بعض فقہ والے فقیہ نہیں ہوتے اور بعض فقہ والے جسے پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ فقیہ ہوتے
 ہیں۔

سیدنا جیسر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منیٰ میں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تازہ خوش و خرم رکھے اس بندے کو جو میری باتیں سننے انہیں محفوظ رکھے پھر انہیں پہنچا دے جنہوں نے انہیں سنیں بعض فقہ والے بے فقہ ہوتے ہیں اور بعض فقہ والے جنہیں پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔

امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حدیث کو طلب کرتا ہے اس کے چہرے پر تازگی کے آثار ہوتے ہیں اسلئے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور پھر سنائے۔

﴿رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ جو شخص میری امت کیلئے 40 حدیثیں حفظ کرے﴾
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص میری امت کیلئے چالیس حدیثیں ان کے دین کے بارے میں حفظ کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص میری امت کے لئے چالیس ایسی حدیثیں یاد کرے جن کی انہیں ضرورت ہو یعنی حلال و حرام کے مسائل کی اللہ تعالیٰ اسے عالم اور فقیہ لکھے گا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص میری امت کے لئے میری سنتوں کی چالیس حدیثیں یاد کر لے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص میری امت کے لئے ایک حدیث یاد کرے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں نفع دے اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔

﴿نبی ﷺ کا الہدایت کی عزت کر نیک حکم فرمانا﴾

ابو ہارون عبدی کہتے ہیں جب ہم سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے تو آپ خوش ہو کر فرماتے مرحبا! تمہارے لئے نبی ﷺ نے وصیت فرمائی ہے ہم نے کہا رسول

فضائل اہل حدیث ۳۱

اللہ ﷺ کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد لوگ تم سے میری حدیثیں پوچھنے آئیں گے جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ لطف و خوشی سے پیش آنا اور انہیں حدیثیں سنانا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے پاس زمین کے کناروں سے نوجوان لوگ حدیثیں طلب کرتے ہوئے پہنچیں گے جب وہ آئیں تو ان کی بہترین خیر خواہی کرنا۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جب ان (طالب حدیث) نوجوانوں کو دیکھتے تو بے ساختہ فرماتے اللہ کے رسول اللہ ﷺ کی وصیت پر تمہیں مرحبا ہو رسول اللہ ﷺ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم تمہیں کشادگی کے ساتھ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں تمہیں احادیث رسول سنائیں تم ہمارے خلیفہ ہو اور اہل حدیث ہمارے بعد تمہارے خلیفہ ہیں۔

جعفر بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے اثر دحام اور بھیڑ کی وجہ سے امام حسین جعفی گھبرا گئے ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے حدیث ڈھونڈے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی سند سے حدیث بیان کی کہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو علم حدیث طلب کریں گی۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں قریب کرنا اور انہیں میری حدیثیں سنانا۔

﴿اسلام غربت سے شروع ہوا اور پھر عنقریب غریب ہو جائیگا غربا کو خوشخبری ہو﴾
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تحقیق اسلام شروع ہوا غربت سے اور عنقریب وہ غربت میں لوٹ جائیگا پس غرباء کو خوشخبری ہو۔

ایک روایت میں اس کے بعد ہے کہ راوی نے پوچھا اے اللہ کے رسول غرباء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ میری سنتوں کو میرے بعد زندہ رکھیں گے اور انہیں اللہ کے دوسرے

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس سوال کے جواب میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قبیلوں اور برادر یوں سے خارج کر دئے جائیں گے۔

سیدنا عبدالن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد متقدمین اہل حدیث ہیں۔

﴿رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ میری امت میں 70 سے اوپر فرقے ہو جائیں گے﴾
 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل کے
 71 فرقے ہو گئے نصاریٰ کے 72 فرقے ہو گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں
 گے۔ سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہوئے اور میری امت کے 72 فرقے ہونگے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے اور وہی جماعت ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اگر اس ناجی فرقہ سے مراد اہل حدیث نہ ہوں تو میں نہیں جان سکتا کہ اور کون ہیں؟

ابو الحسن محمد بن عبد اللہ بن بشر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ﷺ 73 گروہوں میں سے نجات پانے والی جماعت کونسی ہے؟ آپ نے فرمایا اے اہل حدیثو! وہ تم ہو۔

﴿نبی ﷺ کا ارشاد کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے﴾
﴿گی ان کی بے عزتی کر نیوالے انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے﴾

سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ منصور رہے گی ان کی برائی چاہنے والا انہیں نقصان نہ

فضائل اہل حدیث * * * * * 33

پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائیگی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ہمیشہ میری امت سے ایک جماعت حق پر رہے گی۔ ان کے دشمن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہ کر لڑتی رہیگی یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

امام یزید بن ہارون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد جماعت اہلحدیث نہ ہو تو میں نہیں جان سکتا کہ اور کون لوگ مراد ہیں۔

امام ابن المبارک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس میں ہے میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گی میرے نزدیک اس سے مراد اہلحدیث ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اس حدیث کی شرح میں یہی وارد ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہلحدیث نہ ہوں تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے۔

احمد بن سنان رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں اس سے مراد اہل علم اہل حدیث ہیں۔

امام علی بن مدینی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے اصحاب حدیث مراد ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت اصحاب حدیث کی ہے۔

﴿نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ اس علم کو عادل لوگ حاصل کریں گے﴾

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس علم کو ہر زمانے کے عادل لوگ حاصل کریں گے جو اس میں زیادتی کرنے والوں کی تحریف و تبدیل کو اور باطل

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فضائل اہل حدیث ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 35

کے خلفاء کون ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ میرے خلفاء ہیں جو میرے بعد آئیں گے میری حدیثوں اور میری سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں آج تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ میرے اور میرے اصحاب کے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے جانشین اور خلیفہ کون لوگ ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جو قرآن کریم اور میری حدیثوں کو محض اللہ کی رضا مندی اور اس کے دین کی خاطر حاصل کریں گے۔

امام اسحق بن موسیٰ اطمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو بزرگی اور جو فضیلت اہلحدیث کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کسی اور کو نہیں دی۔

خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم انہیں اپنے پسندیدہ دین کی عزت و خدمت سونپیں گے چنانچہ دین کی عزت اسی جماعت کو ملی ان کے سوا اور خواہش پرستوں کو یہ مرتبہ نصیب بھی نہیں ہوا یہ لوگ اگر ایک حدیث بھی رسول اللہ ﷺ کی یا آپ کے صحابی کی بیان کریں تو نہیں مانی جاتی کوئی قبول نہیں کرتا لیکن اصحاب حدیث، احادیث رسول اللہ ﷺ اور احادیث صحابہ رضی اللہ عنہم برابر بیان کرتے ہیں اور سب مانتے اور قبول کرتے ہیں اس جماعت کی احتیاط کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ذرا بدعتیہ کی طرف جھکتا ہے وہیں ان کی حدیث چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ وہ کیسا ہی سچا ہو۔

﴿رسول اللہ ﷺ کا اہلحدیث کے ایمان کی تعریف کرنا﴾

رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ اچھے ایمان والے کون لوگ معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا فرشتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ کیوں ایماندار نہ ہوں گے؟ وہ تو رب العالمین کے درباری ہیں۔

صحابہ نے کہا پھر انبیاء ہوں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے ان پر تو وحی الہی نازل ہوتی ہے۔

صحابہ نے کہا پھر ہم۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم کیوں ایمان نہ لاتے میں تو تم میں موجود ہوں۔ پھر خود آپ ﷺ نے اپنے سوال کا جواب بتا دیا فرمایا تمام مخلوق میں سے زیادہ عمدہ ایمان والی وہ جماعت ہے جو تمہارے بعد آئے گی صرف کتابوں میں لکھا دیکھے گی اور اس پر ایمان لائے گی۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ ہم نے کہا فرشتے ہیں فرمایا وہ تو ہیں اور انہیں تو ہونا چاہیے ان کو تو اللہ نے جس مرتبے پر رکھا ہے وہ انہی کا حصہ ہے نہیں ان کے سوا اور کوئی بتاؤ؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ انبیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو ایسے ہی ہیں اور انہیں ایسا ہونا بھی چاہیے بھلا وہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے کوئی اور بتاؤ؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول پھر تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کے مرتبہ کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا بیشک وہ ایسے ہی ہیں وہ ایسے کیوں نہ ہوتے اللہ تعالیٰ نے انہیں تو شہادت جیسی نعمت انعام فرمائی ان کے سوا اور بتلاؤ؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اب آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے میرے بعد آئیں گے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے نہیں دیکھا لیکن میری تصدیق کریں گے وہ کتابوں کے اوراق میں لکھا دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔

فضائل اہل حدیث 37

شیخ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ اس وصف کے سب سے زیادہ مستحق اور اس حدیث کا اعلیٰ مصداق اہل حدیث ہیں اور جو ان کے راستہ اور رویہ پر ہیں۔
﴿بہ کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے اہل حدیث روز قیامت رسول اللہ ﷺ﴾

﴿کے قریب ہوں گے﴾

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز تمام لوگوں سے قریب مجھ سے وہ لوگ ہونگے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہوں۔
ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبردست بزرگی اور اعلیٰ فضیلت حدیثوں کی روایت کرنے والے اور حدیثوں کے نقل کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ کوئی جماعت رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھنے میں ان علمائے حدیث کی جماعت سے بڑھ کر نہیں نہ تو درود شریف کے لکھنے میں نہ پڑھنے میں۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ سے کسی علم کو لکھے اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر درود بھی لکھے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اسے اجر ملتا رہے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھے تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر محمدؐ تین کو صرف یہی فائدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب تک ان کی کتابوں میں درود ہے ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔

محمد بن ابوسلیمان کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ ابا جان آپ کے

فضائل اہل حدیث 38

ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا کس عمل پر؟ فرمایا کہ صرف اس عمل پر کہ میں ہر حدیث میں ﷺ لکھا کرتا تھا۔

ابوالقاسم عبداللہ مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے والد ایک جگہ بیٹھ کر رات کے وقت حدیثوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہاں پر ایک نور کا ستون دیکھا گیا جو آسمان کی بلندی تک تھا پوچھا گیا کہ یہ نور کس بناء پر ہے؟ تو کہا گیا کہ حدیث کے آمنے سامنے پڑھنے کے وقت جوان کی زبان سے ﷺ نکلتا تھا اس درود کی بناء پر یہ نور ہے۔

﴿نبی کریم ﷺ کا اپنے بعد اپنی حدیث کے طالب علموں کی بشارت دینا اور﴾
﴿ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان سند کا متصل ہونا﴾

سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم مجھ سے سنتے ہو پھر تم سے اور لوگ سنیں گے اور ان سننے والوں سے اور لوگ سنیں گے پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مٹاپے کو پسند کریں گے اور بے پوچھے گواہیاں دیں لگیں گے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سنتے ہو پھر تم سے سنا جائے گا پھر تم سے سننے والوں سے سنا جائے گا۔

امام اسحاق بن راہویہ محدث فرماتے ہیں جو مسئلہ ان تین میں سے مروی ہو اسے اثر کہتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تم سنتے ہو اور تم سے سنا جائے گا اور اس سننے والوں سے سنا جائے گا۔

امام شفی اصبہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت پر تمام چیزوں کے خزانے کھولے جائیں گے یہاں تک کہ حدیث کے خزانے بھی کھول دیئے جائیں گے۔

﴿اسناد کی فضیلت اور اسناد کا اس امت کے ساتھ مخصوص ہونے کا بیان﴾
امام مہر رحمہ اللہ باری تعالیٰ کے فرمان ”اَوْ اَنْفِرَ مِنْ عِلْمٍ“ (الاحقاف: 6) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سند حدیث ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے فرمان **وَ اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ** (الزخرف: 44) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سند حدیث یعنی محدث کا یہ کہنا ہے حدثنی ابی عن جدی مجھ سے میرے والد نے بیان کی انہیں میرے دادا نے سنائی۔

ابوبکر بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے ساتھ صرف اسی امت کو مخصوص فرمایا ہے ان سے پہلے تینوں چیزوں کسی امت کو عطا نہیں

- 1- اسناد
- 2- انساب
- 3- اعراب

(یعنی حدیث کی سند بیان کرنی راویوں کے نسب نامے محفوظ رکھنے الفاظ حدیث وغیرہ پر اعراب لگانا اور بیان کر دینا)۔

محمد بن حاتم بن مظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسناد کی بزرگی شرف اور فضیلت کے ساتھ صرف اسی امت کو مخصوص فرمایا ہے تمام نئی اور پرانی امتوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی اسناد نہیں۔ ان کے ہاتھوں میں صرف کتابیں ہیں جنہیں ان کے علماء نے خلط ملط کر دیا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے وہ توراۃ وانجیل کی نبیوں کی لائی ہوئی اصلی آیتوں اور اپنے علماء کی ملائی ہوئی باتوں میں تمیز کر سکیں۔ جو انہوں نے غیر ثقہ لوگوں سے سن کر اصل کتاب میں ملا دی ہیں۔ برخلاف اس کے یہ امت حدیث رسول ﷺ کو صرف ان بزرگوں

40 فضائل اہل حدیث

سے لیتی ہے جو اپنے زمانے میں ثقہ ہوتے ہیں جو سچائی اور امانت داری میں مشہور ہوتے ہیں جو اپنے جیسے سچے، امین اور ثقہ لوگوں سے ہی روایت کرتے ہیں۔ پھر ان کے استاد بھی ان اوصاف میں پورے ہوتے ہیں آخر تک، باوجود اس کے پھر بھی کامل غور و خوض کرتے ہیں اور کون کس سے بڑھ کر حافظے والا ہے کون کس سے ضبط میں بڑھا ہوا ہے کسے اپنے استاد کی خدمت میں زیادہ ٹھہرنا میسر ہوا ہے کسے کم موقع ملا ہے ان سب باتوں کی پوری دیکھ بھال اور صحیح علم رکھتے ہیں پھر ایک ایک حدیث کو بیس بیس بلکہ اس سے زیادہ وجہوں سے لکھتے ہیں اور ہر طرح کی غلطیوں اور لغزشوں سے پاک صاف کر کے حروف کو خوب محفوظ کر کے الفاظ کو یاد کر کے بلکہ گن گن کر روایت کرتے ہیں۔

اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہم اس نعمت پر اس کی شکرگزاری بجاتے ہیں اور اس سے ثابت قدمی طلب کرتے ہیں۔ اور جو اعمال اس کی نزدیکی حاصل کر نیوالے اور اس کے پاس عزت دلوانے والے ہوں ان کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اس تعریفوں والے مولا سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرمانبرداری کو مضبوطی سے تھام رکھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔

ان محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے باپ کا یا بھائی کا یا اپنی اولاد کا بھی لحاظ رکھے بلکہ علم حدیث میں جو ان کی حالت ہوتی اسے کھول کر بیان فرما دیتے۔

امام علی بن عبد اللہ مدینی کو دیکھ لیجئے! وہ اپنے زمانے میں فن حدیث کے مُسَلَّم امام ہیں ان سے اپنے والد کے حق میں ایک حرف بھی ان کی تقویت کا نہیں نکلا بلکہ اپنے باپ پر اس کے برخلاف ان کی جرح مروی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ توفیق پر اس کا شکر کرتے ہیں۔

فضائل اہل حدیث ~~~~~ 41

﴿احکام شریعت پہچاننے کا ذریعہ صرف اسناد ہی ہے﴾

امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسناد دین کی چیز ہے۔

آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اسناد دین کی چیز ہے اگر اسناد نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ ڈالتا۔

آپ کا فرمان ہے جو شخص امر دین کو سند کے بغیر تلاش کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر زینے کے چھت پر چڑھنا چاہتا ہو۔

محمد بن شادان جو ہری ایک مرتبہ امام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک سند پوچھتے ہیں جسے وہ بھول گئے تھے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو ابو سعید حداد رحمہ اللہ علیہ نے اسناد کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ کا فرمان ہے کہ سند زینے کی مانند ہے۔ جب زینے پر چڑھتے ہوئے قدم پھسلا تو گر پڑو گے۔ اور رائے قیاس کی مثال بے اصل چیز کی طرح ہے۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سند مسلمان کا ہتھیار ہے جب ہتھیار ہی کسی کے پاس نہ ہو تو لڑے گا کیا؟

﴿ابلحدیث رسول اللہ ﷺ کے امانت بردار ہیں﴾

امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلی تمام امتوں میں اپنے رسولوں کی حدیثوں کو یاد کر نیوالے نہ تھے اللہ تعالیٰ نے یہ وصف صرف اسی امت میں رکھا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب یہ لوگ کبھی تو بے اصل اور غیر صحیح حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گو وہ بیان کریں لیکن ان کے علماء صحیح غیر صحیح کی پوری معرفت رکھتے ہیں۔ ایسی غیر صحیح حدیثوں کی روایت صرف اس لئے ہوتی ہے کہ بعد والے دھوکہ میں نہ آجائیں اور انھیں معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے خوب چھان بین کر لی ہے اور احادیث حفظ کر لی ہیں۔

امام عبداللہ بن داؤد ضریبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اماموں سے اور جو ہم سے بہت بڑے بزرگ ہیں سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ اہلحدیث اور علم جاننے والے اللہ تعالیٰ کے امانت بردار اور اس کے نبی کی سنتوں کے محافظ ہیں جب تک اس کا علم و عمل ان میں رہے۔

کبھس ہمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص الہد یتھوں کو دین کے محافظ نہ مانے وہ ان کمزور مسکینوں میں ہے جو اللہ کے دین کو دین نہیں جانتے دیکھو خود اللہ جل و علا اپنے نبی ﷺ کو فرماتا ہے **اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ** (الزمر: 23) اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی حدیث نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی جبرئیل علیہ السلام نے وہ روایت کرتے ہیں اللہ عز وجل سے۔

﴿الحمدیث حامیان دین ہیں وہ سنتوں سے اعتراضات دُور کرتے ہیں﴾
امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے آسمانوں کے دربان ہیں اور اہل حدیث زمین کے یاسبان ہیں۔

امام یزید بن ذریع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر دین کے شہسوار ہوتے ہیں اور اس دین کے شہسوار اہل حدیث ہیں جو کہ اسناد کے نگہبان ہیں۔

قاسم بن نصر مخزومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ آرام فرما رہے ہیں اور امام یحییٰ بن معین محدث رحمہ اللہ آپ کے سر ہانے کھڑے ہوئے مورچہ جھل جھل رہے ہیں صبح آ کر وہ اپنا یہ خواب ذکر کرتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس کی تعبیر ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سے جھوٹی باتوں کو ہم دفع کرتے ہیں۔

﴿الہدایت رسول اللہ ﷺ کی سنتوں اور ہر قسم کی حکمتوں کے وارث ہیں﴾

ایک مرتبہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر سلیمان بن مہران نے یہ پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی میراث کی تقسیم کے لئے جمع ہوئے ہیں۔

امام فضیل رحمہ اللہ الہدایت کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے انبیاء کے وارثو! تمہاری حالت ایسی ہی رہے گی یعنی دنیوی تنگی۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی حدیث جاننے والے کو دیکھ لیتا ہوں تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ گویا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیا۔

﴿بھلائیوں کا حکم کرنیوالے اور برائیوں سے روکنے والے الہدایت ہیں﴾

امام ابراہیم بن موسیٰ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے کون لوگ ہیں جواب دیتے ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ اس لئے کہ ہم کہا کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے کرو اور اسے نہ کرو۔

﴿امت میں سے بہترین لوگ﴾

امام ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ یحییٰ بن آدم کے زانو پر ہاتھ مار کر فرماتے ہیں کہ الہدایت سے بہتر کوئی قوم نہیں ان میں سے ایک ایک مجھ سے بار بار ایک حدیث کی بابت دریافت کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ چاہتے تو مجھ سے سنے بغیر ہی میرا نام لیکر حدیث بیان کر دیتے۔

ایک مرتبہ آپ کو لوگ گھیر لیتے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ سے تنگ آ کر آپ فرمانے لگتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں میرے علم میں کوئی قوم ان سے اچھی نہیں۔ انہیں میری حدیث معلوم ہے لیکن ان کی احتیاط کی یہ حالت ہے کہ جب تک مجھ سے نہ سن

فضائل اہل حدیث ؎ لیس میرا نام لیکر روایت نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر چاہیں اور روایت کرنے لگیں تو انہیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟

امام حفص رحمہ اللہ سے لوگ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے ابو عمرو! دیکھئے تو یہ طالب حدیث کیسے بگڑ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ پھر بھی بہترین لوگ ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اہلحدیث جماعت سے کوئی بہتر جماعت نہیں یہ حدیث کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ابو عبد اللہ فرماتے ہیں علمی باتیں جن لوگوں نے کی ہیں ان میں سب سے بہتر باتوں والے اہل حدیث ہیں۔

ولید بن مسلم فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی سے جب ہم نے علم حدیث حاصل کر لیا اور اپنے وطن کو جانے لگے تو آپ ہمیں رخصت کرنے کے لئے کوئی دس بارہ میل تک پیدل آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ جناب کا اس بڑی عمر میں یہ تکلیف گوارا کرنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا؟ تو فرمانے لگے یہ نہ کہو چلے چلو۔ اگر میں جانتا کہ وہ جماعت جس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے تمہارے سوا کوئی اور ہے تو میں اس کے ساتھ جاتا اور انہیں رخصت کرتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمام دنیا سے افضل تم لوگ ہو۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب حدیث ایک محدث صاحب کے پاس سے نکلے ان کے ہاتھوں میں قلمدان ہیں تو فرمانے لگے۔ اگر یہ سچے انسان نہیں تو میں نہیں جان سکتا کہ پھر انسان کسے کہتے ہیں۔

عثمان بن ابوشیبہ رحمہ اللہ نے بعض اصحاب حدیث کو حالت اضطراب میں دیکھ کر فرمایا ان میں سے فاسق شخص بھی دوسروں کے عابدوں سے اچھا ہے۔

قاضی ابویوسف رحمہ اللہ نکلتے ہیں اور دروازے پر اہلحدیث کی جماعت کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی نہیں۔ صبح صبح گھر سے نکلے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں سننے

لگے۔

﴿الہمدیث ابدال اور اولیاء اللہ ہیں﴾

امام صالح بن محمد رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل حدیث ابدال نہیں تو میں جان نہیں سکتا کہ ابدال اور کون ہوتے ہیں؟

امام صالح رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدالت والا وہ نہیں جو مال جان اور عزت پر عدل کرے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر عدالت والا وہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرے تو وہ مان لی جائے۔ اسے اس پر سچا اور عادل جانا جائے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل حدیث ابدال نہیں تو پھر ابدال اور کون ہوں گے؟

خلیل بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن و حدیث والے بھی اولیاء اللہ نہیں تو جان لینا چاہیے کہ زمین اولیاء اللہ سے خالی ہے۔

امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اتنی عمر صرف الہمدیث کی دعاؤں سے ہوئی ہے۔

محمود بن خالد نے ایک مرتبہ ابو حفص عمرو بن ابوسلمہ سے پوچھا کہ کیا آپ حدیث بیان کرنا پسند فرماتے ہیں۔ جواب دیا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو نیک کار صالح لوگوں کے دفتر سے اپنا نام کٹوا دینا چاہتا ہو؟

﴿اگر الہمدیث نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا﴾

امام حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کے دلوں میں یہ حرص نہ ڈالتا تو یہ کام ہی مٹ جاتا۔

فضائل اہل حدیث د * * * * * 46

امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل حدیث کی یہ جماعت نہ ہوتی اور یہ لوگ حدیثوں کو جمع نہ کرتے تو اسلام بے نشان ہو جاتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تین چار آدمی امام علی بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر تھے آپ فرمانے لگے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ غالب ہو کر حق پر رہے گی نہ ان کے مخالفین انہیں ضرر پہنچا سکیں گے نہ رسوائی اس سے مراد میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم ہو یعنی حدیث والے۔

دیکھو تجارت پیشہ لوگ تجارت میں، کاریگر لوگ اپنی اپنی صنعت میں، بادشاہ لوگ اپنی اپنی سلطنت میں مشغول ہیں مگر تم ہو کہ دن رات سنت رسول ﷺ کو رواج دینے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔

ایک شاعر محدثین کے قلمدانوں کے وصف میں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی روشن قندیلوں کو لیکر حدیث رسول ﷺ کے پھیلانے والے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ہر متقی پر ہیزگار سچے بزرگ عالم سے حدیث رسول ﷺ کو سیکھتے ہیں۔ ان کے قلمدان نورانی ہیں اور ایسے چمکتے ہیں کہ گویا مسجد کے بیچ یہ روشن قندیلیں ہیں۔ یہ حدیثیں ہر ایک فقہ کے عالم اور احکام کے مصنف کو پہنچائی جاتی ہیں۔

امام عبد العزیز بن ابوداؤد رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص حدیث کے لئے ان کے پاس آرہے ہیں تو فرمانے لگے تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ہاتھ میں اسلام کی قندیلیں ہیں۔ یہ ایمان کے روشن چراغ ہیں پر ہیزگاروں کے نشانات ہیں۔

الحمد للہ کتاب شرف اصحاب الحدیث مصنفہ امام خطیب رحمہ اللہ کا پہلا حصہ ختم ہوا۔

دوسرا باب

اہل حدیث حق پر ہیں ﴿﴾

خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے چار چیزوں کو چار گروہ میں پایا۔ کفر کو جہمیہ میں، علم کلام اور جھگڑے بکھیرے کو معتزلہ میں، جھوٹ کو رافضیوں میں اور حق کو اہلحدیثوں میں۔

ولید کراہیسی اپنے آخر وقت میں اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم علم کلام اور مناظرے اور باتیں بنانے میں مجھ سے زیادہ عالم کسی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا اگر میں تمہیں کوئی وصیت کروں تو مان لو گے؟ جواب دیا کہ ہاں فرمایا سنو! تم اہلحدیث کے مذہب کو مضبوط تھام لو میں نے حق کو انہی کے پاس دیکھا انکے بڑے بڑے محدثین کا تو کیا یہی کہنا ہے انکے چھوٹے لوگ بھی حق گوئی کے جذبات سے اس قدر پر ہیں کہ بڑے بڑوں کی غلطیاں نکال کر صاف بیان کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے۔

عبدالرحیم بن عبدالرحمن فرماتے ہیں جو شخص حدیث کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو الجھاتا ہے اس کا انجام گمراہی ہوتا ہے۔

﴿﴾ قیامت کے دن نجات کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے پہلے جنت ﴿﴾

﴿﴾ میں جانے والے اہلحدیث ہیں ﴿﴾

رسول اللہ ﷺ کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے ہول و خوف اور اس کی ہر جگہ کی سرزنش سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا رہا¹۔

1۔ خود ساختہ درود نہیں بلکہ وہ درود جسکی خود رسول اللہ ﷺ نے تعلیم فرمائی ہے یعنی اللھم صل علی محمد و علی آل محمد الخ (درود ابراہیمی)

ابو مزاحم خاقانی کے اشعار ہیں کہ اہل حدیث ہی نجات پانے والے ہیں۔ اگر وہ حدیث پر عامل بھی ہو جائیں اور اس امانت کی پوری ادائیگی کریں۔ یہ کہا گیا ہے کہ تمام بندوں میں افضل یہی ہیں جیسے بھی ہیں جبکہ وہ فتنوں سے بچے رہیں۔ ان میں سے جو انتقال کر جائے اسے شہادت نصیب ہوتی ہے اور اس کی قبر اس کیلئے بہترین پاکیزہ گھر بن جاتی ہے۔

حسن بن علی تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طواف کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن سب سے آگے کون لوگ ہوں گے۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ الحمد للہ ہو گئے۔

﴿ علم حدیث کی جستجو کیلئے سفر کرنیوالوں کی فضیلت ﴾

یزید بن ہارون رحمہ اللہ حماد بن زید رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں بھی
الحدیث کا ذکر ہے فرمایا کیوں نہیں؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ:

لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ (التوبة: 122)

یعنی دین کی سمجھ پیدا کریں اور اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں ڈرائیں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو علم دین کی سمجھ حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرے اور سیکھ کر اپنی قوم والوں کو آ کر سکھائے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد امام عبد الرزاق قرآن پاک کی آیت

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. (التوبة: 122)

یعنی ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کا کام سیکھنے کے لئے کیوں نہیں نکلتی تاکہ وہ لوٹ کر اپنی قوم کو ڈرائیں شاید کہ وہ ڈرائیں۔

اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب حدیث ہیں۔

امام ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کے ان سفروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولیٰ سیدنا عمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں السائقون جو قرآن کریم میں ہے اس کی تفسیر حدیث کے طالب علم ہیں۔

امام علی بن معبد رحمہ اللہ اہل حدیث کو دیکھ کر فرمایا کرتے یہ پراگندہ بالوں والے میلے کپڑوں والے، غبار آلود چہروں والے بھی اگر ثواب کے مستحق نہیں تو اللہ کی قسم یہ صریح نا انصافی ہے۔

شیخ ابوبکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے جس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ حدیث کے طالب علم بڑے بڑے ثوابوں کے مستحق ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا فائدہ ان کا یہ ہے جو امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص حدیث سے کچھ اور فائدہ حاصل نہ کرے لیکن کم سے کم یہ علم اسے بدعقیدگی سے تو ضرور روک دے گا تو کیا یہی فائدہ کچھ کم ہے؟

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ حدیث لکھتے تو ہیں لیکن اس کا اثر ان پر نہیں دیکھا جاتا اور نہ ان کا وقار ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مآل اور انجام اس کا خیر و برکت ہی ہے۔

امام ایوب رحمہ اللہ کو جب کبھی کسی حدیث والے کے انتقال کی خبر پہنچتی تو اتنا صدمہ اور رنج کرتے کہ چہرہ غمگین ہو جاتا اور جب کبھی انہیں کسی عابد کے انتقال کی خبر ہوتی تو یہ بات اس کے چہرے پر نہ دیکھی جاتی تھی۔

﴿ حدیث کا سننا اور لکھنا دنیا اور آخرت کو جمع کرنا ہے ﴾

سہل بن عبداللہ زہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہے وہ حدیث لکھا کرے اس میں دونوں جہانوں کا نفع ہے۔

عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں حدیث سے جو شخص دنیا چاہے اس کے لئے دنیا ہے اور جو آخرت چاہے اسکے لئے آخرت ہے۔ حدیث کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسمیں جو اپنی مراد دیکھے اس کے لئے دنیا اور جو آخرت رکھے اس کے لئے آخرت ہے۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا سننا، دنیا چاہنے والے کے لئے عزت کا باعث اور آخرت چاہنے والے کے لئے رشد و بھلائی کا سبب ہے۔

احمد بن منصور شیرازی نے کسی کے اشعار بیان کئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

لوگو! حدیث کو مضبوط تھام لو اس جیسی کوئی چیز کسی طرح نہیں۔ چونکہ دین نام ہے خیر خواہی کا اس لئے میں نے تمہاری واجب خیر خواہی ظاہر کر دی۔ ہم نے تو روایت ہی میں تمام فقہ پائی اور کل احکام پائے اور تمام لغات پائے۔ میری راتوں کا انیس مسند حدیثوں کا ذکر ہے۔ جان لو کہ تمام فائدوں سے بہترین فائدہ علم کا حفظ کرنا ہے۔ جس نے حدیث کی طلب کی اس نے فضیلت کے خزانے جمع کر لئے اور ثابت رہنے والی دنیا سمیٹ لی۔ لوگو! ان روایتوں کو مضبوط پکڑ لو جنہیں امام مالک اور امام شعبہ، امام ابن عمرو، امام ابن زید، امام سفیان، امام یحییٰ، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام ابن الفرات رحمہم اللہ جیسے ثقہ بزرگ اور پاک نفس لوگ روایت کرتے ہیں۔ ہمارے آئمہ روشن ستاروں کی طرح ہیں کیا کوئی شخص ان نورانی ستاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟؟

﴿ شاہان اسلام جنہوں نے الہمحدیث کیلئے بیت المال کا حصہ مقرر کیا ﴾

خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حمص کے گورنر کے نام

فضائل اہل حدیث 51

فرمان بھیجا کہ اہل صلاح کا بیت المال میں اتنا حصہ مقرر کر دو کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں تاکہ قرآن و حدیث کے علم سے انہیں کوئی چیز مشغول نہ کر سکے۔

﴿حدیث سنانے کے لئے نو عمر لڑکوں کو قریب کرنا﴾

ایک شخص امام اعمش رحمہ اللہ کے پاس سے گذرا وہ اس وقت حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس نے کہا آپ ان نو عمر لڑکوں کے سامنے حدیثیں بیان فرماتے ہیں؟ امام اعمش رحمہ اللہ نے جواب دیا یہی لوگ تمہارا دین تمہارے لیے حفظ کریں گے۔

امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جب اہل حدیث بچوں کو ہاتھوں میں قلمدان لئے ہوئے دیکھتے تو انہیں کھڑا کر کے فرماتے یہ ہیں دین کے پودے۔ جن کی بابت فرمان رسول اللہ ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ نئے نئے پودے لگاتا رہے گا۔ جن سے دین خداوندی مضبوط ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ آج نو عمر ہیں اور تم میں چھوٹے ہیں لیکن عنقریب تمہارے بعد یہی لوگ عمر میں اور عزت میں بڑے ہونگے۔

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قریش کی ایک جماعت کو فرماتے ہیں تم نے ان بچوں کو الگ کیوں بٹھا رکھا ہے؟ ایسا نہ کرو ان کے لئے مجلس میں جگہ کیا کرو اور انہیں حدیثیں سنایا کرو اور مطلب سمجھایا کرو آج اگر یہ چھوٹے ہیں لیکن کل سردار بن جائیں گے تم بھی کبھی قوم کے چھوٹے تھے لیکن آج بڑے ہو۔

﴿حدیث پڑھنے پر اپنے بچوں کو جبراً آمادہ کرنا چاہیئے﴾

عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں انسان کو چاہیئے کہ حدیث کے سننے پر اپنی اولاد کو مجبور کرے۔ دین علم کلام میں نہیں بلکہ دین صرف احادیث رسول ﷺ میں ہی ہے۔

آپ سے یہی روایت ایک اور طریق سے مروی ہے ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ

﴿اینی اولاد کی دلجوئی کر کے حدیث سنانا﴾

امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا بیٹا! تم حدیث سیکھو اور یاد کرو ایک ایک حدیث یاد کرنے پر تمہیں ایک ایک درہم انعام دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسی طرح حدیثیں یاد کیں۔

﴿ان بزرگوں کا بیان جنہوں نے حدیث نہ سننے والوں کی مذمت کی﴾
امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جب کسی شیخ کو دیکھتے کہ وہ حدیث نہیں لکھتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف سے بھلا بدلہ نہ دے۔

امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ قرآن کریم نہیں پڑھتا اور حدیث نہیں لکھتا تو اس سے دور رہو وہ شیخ القمر ہے۔

اور شیخ القمران دہریہ لوگوں کو کہتے ہیں جو چاندنی رات میں جمع ہو کر تاریخی واقعات میں بڑی دون کی لیتے ہیں اور مسائل دینیہ میں ان کی جہالت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں جانتے۔

﴿مرتے دم تک حدیث لکھنے میں مشغول رہنا﴾

امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کب تک حدیث لکھتے رہیں گے؟ فرمایا شاید کوئی روایت اور ہو جس سے مجھے نفع پہنچے میں نے اب تک نہ سنی ہو؟

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کب تک لکھتا رہے؟ فرمایا

مرتے دم تک۔

آپ فرمایا کرتے تھے میں تو قبر میں جانے تک طالب علم ہی رہوں گا۔

فضائل اہل حدیث 53

امام حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا اسی برس کا آدمی بھی حدیث لکھے؟ فرمایا جب تک اس کی اچھی زندگی ہے۔

﴿اہل حدیث قوی دلائل والی جماعت ہے﴾

امام اعظم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے اور اصحاب نبی ﷺ کے درمیان صرف ایک پردہ ہے جب چاہوں اسے اٹھا دوں اور انہیں دیکھ لوں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم جاننے والا بڑی قدر و قیمت والا شخص ہے اور فقہ جاننے والا بڑی شخصیت والا آدمی ہے اور حدیث کا لکھنے والا بڑی قوی دلیل والا انسان ہے۔ ابو عروہ حرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص فقہ جانتا ہو اور حدیث نہ جانتا ہو وہ لنگڑا ہے۔

﴿علم حدیث کی رغبت کرنیوالے اور اس سے بے رغبتی کرنیوالے﴾

امام زہری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ امام ہدلی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حدیث اچھی معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا اسے مرد پسند کرتے ہیں اور نامرد اسے پسند نہیں کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ طالبان حدیث مرد ہیں اور حدیث سے بے رغبتی کرنے والے نامرد ہیں۔

ابو الفضل عباس بن محمد خراسانی کے اشعار ہیں جن میں فرماتے ہیں۔

میں نے کوشش سے اصل علم حاصل کرنے کے لئے سفر کیا۔ دنیا میں انسان کی زینت احادیث رسول ﷺ ہی ہیں۔ طالب علم ہی شیر دل مرد ہے اور علم سے دشمنی رکھنے والا تو مخنث ہے۔

مال پر گھمنڈ نہ کر اسے تو تُو عنقریب چھوڑ کر چل دے گا۔ یہ دنیا تو یونہی ایک دوسرے کے ہاتھوں میراث ہوتی چلی جا رہی ہے۔

﴿اہل سنت وہی ہے جو اہل حدیث سے محبت رکھے﴾

امام قنبلہ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اہل حدیث سے محبت رکھتا ہے (جیسے امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ، امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور اسی طرح بہت سے محدثین رحمہم اللہ کے نام لئے) تو سمجھ لو کہ وہ اہلسنت ہے اور جسے اس کے خلاف پاؤ تو سمجھ لو یہ بدعتی بدعتیدہ ہے۔

ابو جعفر خواص رحمہ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ:

بدعتیوں کی رونق جاتی رہی اور ان کے سہارے ٹوٹ گئے۔ اور ابلیس نے جو لشکر جمع کیا تھا اس کے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہونے کی چیخ و پکار ہونے لگی۔

لوگو! بتاؤ تو ان بدعتیوں کی بدعتوں میں کوئی سمجھ دار آدمی ان کا پیشوا بھی ہے؟

جیسے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جنہوں نے زہد و اتقاء کے نکتے لوگوں کو سکھائے؟

یا امام سلیمان تمیمی رحمہ اللہ جنہوں نے قیامت کے خوفناک حالات سے متاثر ہو کر اپنی نیند اور آرام چھوڑ دیا تھا۔

یا اسلام کے نوجوان بہادر امام بن حنبل رحمہ اللہ جو ہر ایک آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ نہ تو کوڑوں سے ان کا ایمان متزلزل ہوا نہ تلوار ان کی قوت ایمان کو گھٹا سکی۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بقیہ بن ولید سے پوچھا کہ ابو محمد! تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جو لوگ اپنے نبی ﷺ کی حدیث سے بغض رکھیں؟ انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ فرمایا دیکھو! جس کسی بدعتی کے سامنے تم اس کی بدعت کے خلاف حدیث رسول اللہ ﷺ بیان کرو گے وہ فوراً اس حدیث سے چڑھ جائے گا اور اس سے بغض رکھے گا۔

احمد بن سنبل قطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں جو حدیث سے چڑتا نہ ہو

فضائل اہل حدیث ۱ x x x x x x x x x x x x x x x x 55

جب کبھی کوئی انسان بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے اس کے دل سے حدیث کی حلاوت چھین لی جاتی ہے۔

ابونصر بن سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لمحدوں پر حدیث کے سننے اور اسے باسند روایت کرنے سے زیادہ بھاری اور ناپسند کوئی چیز نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے احمد بن حسن کہتے ہیں کہ ابن ابی قبیلہ سے مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اہل حدیث کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے یہ بری قوم ہے۔ امام صاحب غصے سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور یہ فرماتے ہوئے گھر میں چلے گئے کہ یہ زندیق ہے یہ بے دین ہے یہ بدعتیہ ہو گیا۔

﴿الحدیث کی مدح اور اہل الرائے کی مذمت﴾

امام شعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو میں تمہیں اصحاب محمد ﷺ کی حدیثیں بیان کروں وہ تم لے لو اور جو لوگ اپنی رائے سے بتائیں ان کی باتوں سے درگزر کر لیا کرو۔

احمد بن شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص قبر میں کام آنے والا علم سیکھنا چاہتا ہو وہ حدیث پڑھے اور جو صرف خبر کا ارادہ رکھتا وہ رائے قیاس سیکھے۔

یونس بن سلیمان سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خوب غور کر کے دیکھا تو دو چیزیں پائیں۔ حدیث اور رائے۔ حدیث میں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے جلال کا، اس کی عظمت کا ذکر پایا۔ عرش کا، جنت کا، دوزخ کا، نبیوں اور پیغمبروں کا، حلال و حرام کا ذکر بھی حدیث میں ہی پایا۔ صلہ رحمی اور ہر طرح کی بھلائی پر رغبتیں بھی اسی میں پائیں۔ لیکن رائے قیاس میں مکر و فریب، حیلہ سازیاں اور دھوکہ بازیاں پائیں۔ رشتوں ناطوں کا توڑنا اور ہر طرح کی برائیاں اسی میں دیکھیں۔

ابوبکر محمد بن عبدالرحمن نسفی مقرر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ، ابوبکر بن اسماعیل کو ابو ثمود کہا کرتے تھے۔ اسلئے کہ پہلے وہ اہلحدیث تھا پھر اہل الرائے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (حم السجدة: 17)۔

ثمود یوں کو ہم نے ہدایت دی لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا اور ہدایت چھوڑ دی۔

عبدہ بن زیاد صہبانی کے اشعار ہیں:

کہ محمد ﷺ کا دین تو احادیث میں ہے انسان کے لئے حدیث سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ خبردار حدیث اور اہلحدیث سے دھوکہ نہ کرنا۔ رائے قیاس رات ہے اور حدیث دن ہے۔ افسوس انسان ہدایت کی راہیں باوجود چمکیلے سورج کی روشنی کے بھی کبھی بھول جاتا ہے۔

امام جعفر بن محمد رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جاتے ہیں تو آپ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے قیاس کو دخل نہ دو۔ دیکھو کل ہمیں اور تمہیں اور ہمارے مخالفین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم تو اس وقت کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا۔ لیکن آپ او ر آپ کے ہم خیال کہیں گے ہماری رائے ہمارا قیاس یہ ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے ساتھ جو چاہے گا سو کریگا۔

عبداللہ بن حسن صہبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مصر میں تھا طبیعت میری ناساز تھی۔ میں نے دیکھا کہ جامع مسجد میں ان کے قاضی صاحب آئے اور بیان کرنا شروع کیا کہ مسکین اہلحدیث فقہ کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ میں گھٹنوں کے بل چل کر اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا سنو! اصحاب نبی ﷺ نے مردوں اور عورتوں کے زخموں کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ذرا بتلاؤ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے کیا فرمایا ہے؟ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا

فضائل اہل حدیث ؑ میں نے کہا اسی زعم پہ کہہ رہے تھے کہ اہلحدیث فقہ نہیں جانتے۔ میں ایک اہلحدیث ہوں اور معمولی سا سوال کیا تم سے اس کا جواب بھی نہ بن پڑا لیکن زبان چل رہی ہے کہ اہل حدیث فقہ نہیں جانتے۔

ابوعبداللہ محمد بن علی صوری اپنے اشعار میں کہتے ہیں:

جو شخص حدیث سے بغض رکھے اور اہلحدیث سے چڑے اور دعوے کرتا رہے اس سے کہہ دو کہ تم کچھ جانتے ہو۔ یا یونہی جہالت سے باتیں بناتے ہو جو بے وقوفی کا کام ہے۔
کیا ان بزرگوں کو برا کہا جاسکتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تمام بلاؤں اور آفتوں سے بچا رکھا کمی و بیشی سے پاک رکھا۔ آج دنیا کا ہر عالم اور ہر فقیہ ان کا دست نگر ہے۔
خليفة ہارون الرشید کا فرمان ہے کہ مروت اہلحدیث میں ہے کلام معتزلہ میں ہے جھوٹ رافضیوں میں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصحاب کلام کے بارے میں میرا فتویٰ ہے کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں اور اونٹوں پر سوار کر کے گھر گھر اور محلے محلے پھرایا جائے اور منادی کرادی جائے کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو کتاب وسنت کو چھوڑ دے اور علم کلام میں مشغول ہو جائے۔
ابومزاحم خاقانی کے اشعار ہیں:

کہ اہل کلام اور اہل الرائے نے علم حدیث کو نہ حاصل کیا جس سے انسان کی نجات ہوتی ہے اگر وہ احادیث رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ جان لیتے اور ان سے منہ نہ پھیرتے اور رائے قیاس اور کلام کو نہ لیتے تو ان کی نجات ہو جاتی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی جہالت سے اس کے خلاف کیا۔
ابوزید فقیہ رحمہ اللہ نے ایک شافعی عالم کے اشعار پڑھے:

کہ قرآن حدیث اور دین کی سمجھ کے سوا ہر کلام بے دینی ہے جس علم میں حدثنا آئے یعنی سند کے ساتھ حدیث بیان ہو وہ تو تابعداری کے لائق ہے۔ اور اس کے سوا باقی علوم شیطانی

وسو سے ہیں۔

﴿حدیث کو حفظ کرنے اور اس کے ادب کر نیکا ثواب﴾

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص میری امت کو ایک حدیث بھی پہنچا دے جس سے سنت قائم ہو یا بدعت ٹوٹے اس کے لئے جنت ہے۔

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دو حدیثیں سیکھ لے جن سے وہ خود نفع اٹھائے یا دوسرے کسی کو سکھائے اور وہ نفع اٹھائے تو یہ اس کے لئے ساٹھ سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔

ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم کو طلب کرنے میں جلدی کرو۔ ایک سچے شخص کی حدیث ساری دنیا سے اور اس میں جو کچھ سونا چاندی ہے سب سے بہتر ہے۔

﴿علم حدیث کو طلب کرنا ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے﴾

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر کوئی عمل حدیث کی طلب سے افضل ہو اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو۔

آپ کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک حدیث سے بڑھ کر بوجھل اور اس سے افضل چیز کوئی اور نہیں۔ افضل تو اس کے لئے ہے جس کا ارادہ آخرت کا ہے اگر یہ ارادہ نہ ہو تو بڑا خوف ہے۔

فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہو میرے علم میں تو اس کے لئے حدیث سے افضل اور کوئی چیز نہیں۔ دیکھو تو تمام مسلمانوں کو اپنے کھانے پینے تک میں اس کی ضرورت رہا کرتی ہے۔

امام وکیع بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدیث کے

پڑھنے پڑھانے سے زیادہ افضل نہیں۔

بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور نیک نیت ہو میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس کے لئے کوئی عمل طلب حدیث سے بھی افضل ہو رہا۔ رہا میں، سو میں تو اپنے ہر قدم پر جو میں نے اس میں اٹھایا ہوا استغفار کرتا ہوں۔

﴿حدیث کی روایت تسبیح خوانی سے بھی افضل ہے﴾

امام وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر روایت حدیث میرے نزدیک تسبیح خوانی سے بہتر نہ ہوتی تو میں ہرگز روایت حدیث میں مشغول نہ ہوتا۔

﴿حدیث کی روایت کا درجہ درس قرآن جیسا ہے﴾

سلیمان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو مجلز رحمہ اللہ کے پاس تھے اور وہ ہمیں حدیثیں سنا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کاش کہ آپ قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھتے؟ تو ابو مجلز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک علم حدیث بھی کسی سورت کی تلاوت سے کم نہیں۔

﴿حدیث کی روایت کا ثواب نماز پڑھنے کے برابر ہے﴾

محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہمیں حدیثیں سنارہے تھے تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا جب آپ حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوں تب سلام کیجئے گا۔ اس لئے کہ آپ گویا نماز میں ہیں۔

﴿حدیث کی روایت نفل نماز سے افضل ہے﴾

امام وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں جانتا کہ نفل نماز کا پڑھنا حدیث بیان کرنے سے افضل ہے تو میں ہرگز حدیث بیان نہ کرتا۔

امام قعنی رحمہ اللہ سے بھی یہی فرمان منقول ہے۔

عمر بن سہیل رحمہ اللہ سے معافی ابن عمران الحمدیث سوال کرتے ہیں کہ اے ابو عمران! آپ کے نزدیک یہ افضل ہے کہ حدیث لکھوں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک حدیث کا لکھنا میرے نزدیک رات بھر کی نماز سے افضل ہے۔

محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ابو زرہ رحمہ اللہ کا مکتوب وصیت کے بارے میں آیا انہوں نے صبح سے لے کر جمعہ کی نماز کے وقت تک اسکو پڑھا۔ پھر جمعہ کے دو فرض پڑھ کر اسے پڑھنے لگ گئے۔ عصر تک پڑھتے رہے عصر کے بھی صرف فرض پڑھے۔ اس دن نوافل پڑھے ہی نہیں اور ان حدیثوں کے پڑھنے میں مشغول رہے اسلئے کہ حدیث کا پڑھنا نفل نماز سے افضل ہے۔

﴿حدیث کا لکھنا نفلی روزوں سے افضل ہے﴾

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص تو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں میں مشغول ہے اور دوسرا شخص حدیث کے لکھنے میں مشغول ہے۔ فرمائیے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث لکھنے والا۔ سائل نے کہا آپ نے اسے اس پر فضیلت کیسے دیدی؟ فرمایا اس لئے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ لوگوں کو ہم نے ایک چیز پر پایا اور ان کے ساتھ ہو لئے¹

امام ابوبکر احمد بن علی خطیب رحمہ اللہ رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ بالخصوص اس زمانہ میں تو حدیث کا سیکھنا ہر قسم کی نفلی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اسلئے کہ سنتیں مٹی چلی جا رہی ہیں ان پر سے عمل اٹھتا چلا جا رہا ہے اور بدعت اور بدعتی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔

یکٹی ایمان رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ آج کل طلب حدیث بہترین عبادت اور خیر و برکت کا باعث ہے لوگوں نے کہا امام صاحب ان طالب علموں کی نیت نیک کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا طلب حدیث خود نیک نیتی ہے۔

1۔ یعنی حدیثیں نہیں ہوگی تو لوگ دوسروں کی تقلید اور پیروی کریں گے۔

﴿ حدیث کو بطور شفا حاصل کرنے کے پڑھنا ﴾

امام رمادی رحمہ اللہ جب بیمار پڑتے تو فرماتے اہلحدیثوں کو بلاؤ۔ جب وہ آتے تو فرماتے مجھے حدیثیں پڑھ کر سناؤ۔

﴿ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روایت حدیث سے کیوں منع فرمایا تھا اور آپ ﴾

﴿ کے فرمان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ﴾

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس آدمی بھیجا اور انہیں بلوا کر اپنے پاس روک لیا اور فرمایا تم کیوں اس قدر کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہو؟ اپنی شہادت تک ان بزرگوں کو اپنے پاس ہی رکھا۔

قرظہ بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم جانے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لئے صرار مقام تک آئے پھر پانی منگوا کر وضو کیا اور ہم سے فرمانے لگے جانتے ہو میں تمہارے ساتھ یہاں تک کیوں آیا؟ ہم نے کہا اس لئے کہ آپ ہمیں رخصت کریں اور عزت افزائی کریں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور مطلب بھی ہے وہ یہ کہ تم اب ایک قوم کے پاس پہنچو گے۔ جنہیں قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت ہے۔ اور بکثرت اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھو! تم کہیں انہیں احادیث سنا کر اس سے نہ روک دینا جاؤ میں بھی تمہارا شریک ہوں۔

قرظہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اس کے بعد کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی۔

اگر کوئی شخص ان روایتوں کو پیش کر کے سوال کرے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر روایت حدیث کا انکار کیوں کیا؟ اور ان پر اس بارے میں سختی کیوں کی؟ تو جواب

دیا جائے گا کہ محض دین کی احتیاط اور مسلمانوں کی اچھائی کے لئے۔ اس لئے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ صرف روایت پر نہ رہ جائیں اور عمل نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کھٹکا تھا کہ کہیں معافی کے سمجھنے سے قاصر نہ رہ جائیں۔ اس لئے کہ بعض حدیثیں ظاہر پر محمول نہیں ہوتیں اور ہر شخص ان کے اصلی معنی تک پہنچ جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کبھی حدیث مجمل ہوتی ہے اور اس کی تفصیل اور تشریح دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ خیال گذرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کا مطلب غلط سمجھا جائے اور ایک لفظ کو لے کر کوئی بیٹھ جائے حالانکہ اور حدیثوں کو ملانے سے فی الواقع مطلب اس کا کھل جاتا ہے اور وہ دوسرا ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر مندرجہ ذیل حدیث کو ملاحظہ فرمائیے جس سے ہماری اس توجیہ پر کافی روشنی پڑے گی۔

نبی ﷺ ایک مرتبہ اپنے گدھے پر جسے عفیر کہا جاتا تھا سوار تھے اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا معاذ! جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ علم ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بندے کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو مشرک نہ ہو اسے عذاب نہ کرے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ﷺ! میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا نہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اس پر تکیہ نہ لگالیں۔

بعض روایتوں میں ہے کہ اجازت چاہنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور اس کے ساتھ اس نے شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں جائے گا۔

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیں تو آپ نے فرمایا انہیں نہ سناؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نڈر نہ ہو جائیں۔

ابوالعباس احمد بن یحییٰ رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ نبی ﷺ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ دونوں اہل جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں انہیں یہ خبر نہ دینا آپ نے ان تک یہ حدیث پہنچانے کی ممانعت کیوں فرمائی؟ ابوالعباس رحمہ اللہ نے جواب دیا محض اس لئے کہ ایسا نہ ہو ان کے اعمال میں قصور آجائے۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منع فرمانے کی ہے۔ اور یہی سبب ان کی اس سختی کا ہے جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کی۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی حفاظت ہے اور بعد والوں کو تنبیہ ہے تاکہ وہ سنت رسول ﷺ میں وہ چیز داخل نہ کر دیں جو اس میں نہیں۔ اس لئے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہنے والے سچے لوگوں پر بھی جب روایت حدیث کے بارے میں اس قدر سختی کی گئی ہے تو وہ روایت حدیث میں بہت احتیاط سے کام لیں گے اور نفس انسانی میں شیطانی خیالات کذب کے بارے میں جو اٹھتے ہیں ان سے وہ بہت بچتے رہیں۔

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دمشق کے منبر پر فرمایا لوگو! سوائے ان حدیثوں کے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیان کی جاتی تھیں بیان کرنے سے بچو۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ عزوجل کے دین کے بارے میں لوگوں کو دھمکاتے رہا کرتے تھے اور جو معنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے ہم نے بیان کئے ہیں اسی توجیہ کی تائید یہ روایت بھی کرتی ہے

کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب سلام کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث

فضائل اہل حدیث

بیان کی تو آپ نے فرمایا کسی اور کو بھی گواہ لاؤ جس نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تین مرتبہ سلام کیا جب اجازت نہ ملی تو لوٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ آپ کیسے لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ سلام کرے جواب نہ پائے تو لوٹ جائے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی اس روایت پر شہادت پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا؟ عبداللہ بن قیس گھبرائے ہوئے آئے اور میں جس جماعت میں تھا وہاں سے گزرے۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پورا قصہ بیان کر کے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ انھوں نے کہا ہاں ہم سب نے سنا ہے۔ پھر اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہی حدیث اپنے سامع سے بیان کی۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ¹ سے گواہ اس لئے طلب کیا تھا کہ وہ خبر واحد (ایک شخص کی بیان کردہ روایت) کو قابل قبول نہیں جانتے تھے ہرگز نہیں۔

دیکھئے! فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے مجوسیوں سے جزیہ لینے کی بابت بیان فرمائی تھی قبول کی اور اس پر عمل بھی کیا۔ حالانکہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور نے وہ بیان نہیں فرمائی۔

اسی طرح ضحاک بن سفیان کلابی کی روایت کو اشیم ضبابی کی عورت کو اس کی دیت میں سے ورثہ دلانے کے بارے میں۔ حالانکہ وہی تنہا راوی تھے قبول فرمائی اور عمل کیا۔

اسی طرح یہ بھی نہ جاننا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت

1- ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے اور ابوموسیٰ کنیت ہے۔

فضائل اہل حدیث 65

اس لئے قبول نہ فرمائی تھی کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر بدگمانی کرتے تھے۔ بلکہ اس کی وجہ وہی تھی جسے ہم نے بیان کیا ہے یعنی صرف سنتوں یعنی حدیثوں کی حفاظت و صیانت اور روایت کے بارے میں احتیاط و چٹنگی۔ واللہ اعلم۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت سے اورتا بعین رحمہم اللہ کی بھی بہت بڑی جماعت سے حدیث کی اشاعت، حدیث کا حفظ، حدیث کا مذاکرہ (ایک دوسرے کو سنانا، سننا) اور ان چیزوں پر رغبت و تحریریں مروی ہے ہم کچھ روایات ان میں سے یہاں نقل کرتے ہیں۔

﴿صحابہ کرام اورتا بعین عظام کی ان بعض روایات کا بیان جو حدیث کے حفظ، ﴿اشاعت اور مذاکرہ کی بابت مروی ہیں﴾

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیثوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ حدیثوں کا مذاکرہ کرتے رہو۔ اگر یہ نہ کیا تو ڈر ہے کہ یہ علم مٹ نہ جائے۔ یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کا مذاکرہ کرو علم حدیث کی حیات آپس میں پڑھنا پڑھانا ہی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حدیث کا درس تدریس اور مذاکرہ جاری رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ علم جاتا رہے اس لئے کہ یہ قرآن کریم کی طرح جمع کی ہوئی اور محفوظ نہیں ہے۔ اگر تم نے حدیث کا شغل مذاکرہ کے طور پر نہ رکھا تو یہ علم جاتا رہے گا۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے کل حدیث بیان کی تھی آج نہ بیان کروں گا نہیں بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے کل بھی حدیثیں بیان کیں آج بھی بیان کروں گا اور پھر کل بھی بیان کرتا رہوں گا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم ہم سے حدیثیں سنو انہیں آپس میں دہرایا

فضائل اہل حدیث
کرو۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ حدیث بیان کیا کرو ایک حدیث دوسری کو یاد دلادیتی ہے۔

سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ علمی مجلسیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہیں رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی باتیں پہنچا دیں تم بھی جو کچھ اچھی باتیں ہم سے سنو دوسروں تک پہنچا دو۔

سلیم بن عباس کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے وہ ہمیں بکثرت رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں بیان کرتے تھے پھر فارغ ہو کر فرماتے تھے اچھی طرح انہیں سمجھ لو اور پھر جس طرح تمہیں پہنچائی گئی ہیں دوسروں کو پہنچاؤ۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں نصر اور موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ حدیث کو اور اسناد حدیث کو لکھ لیا کریں اور انہیں دوسروں کو سکھائیں۔ فرماتے ہیں ہم تو اس علم کو علم نہیں جانتے تھے جو اپنے علم کو نہ لکھے۔

سیدنا علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ اس کی حیات آپس میں پڑھنا پڑھانا ہی ہے فرمایا کرتے تھے ذکر حدیث کی طلب کرو تا کہ وہ بے روق نہ ہو جائے۔
عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ کا قول ہے حدیث کی زندگی اس کا پڑھنا پڑھانا ہے تم اس کا مذاکرہ جاری رکھو۔

طلق بن حبيب رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیثوں کا مذاکرہ کیا کرو ایک حدیث دوسری کو یاد دلایا کرتی ہے۔

سیدنا ابوالعالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی تم رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرو تو اسے اچھی طرح محفوظ رکھو۔

فضائل اہل حدیث 67

﴿بادشاہان اسلام کا روایت حدیث کی تمنا کرنا اور ان کا محدثین کو تمام علماء سے﴾

﴿افضل جاننا﴾

خلیفہ مامون الرشید نے جب مصر فتح کیا تو فرج اسود نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین! اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے دشمن پر آپ کو اپنی مدد سے غالب کیا۔ عراق شام اور مصر آپ کے ماتحت ہو گئے۔ پھر یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں؟ تو خلیفہ وقت جواب دیا کہ یہ سب سچ ہے۔ لیکن ایک تمنا رہ گئی ہے وہ یہ کہ میں مجلس میں بیٹھوں اور علماء لکھنے والا آئے اور وہ مجھ سے پوچھے کہ ہاں بتلائیے کہ آپ سے کس نے بیان کیا۔ اور میں روایت بیان کروں کہ مجھ سے حماد بن سلمہ بن دینار اور حماد بن زید بن درہم نے حدیث بیان کی۔ ان سے ثابت بنانی نے ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دولڑکیوں کی پرورش کرے، یا تین کی، یا دو بہنوں کی، یا تین کی، یہاں تک کہ وہ مرجائیں یا اس کا خود انتقال ہو جائے تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا اور آپ ﷺ نے شہادت کی اور درمیان کی انگلی ملا کر اشارہ کر کے بتلایا۔

مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صریح غلطی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید اور دونوں حماد کے درمیان ایک راوی اور ہو۔ اسلئے کہ خلیفہ مامون الرشید 170ھ میں پیدا ہوئے اور حماد بن سلمہ کا 167ھ میں انتقال ہو گیا تھا تو حماد کے انتقال کے تین سال بعد تو وہ پیدا ہوئے پھر ان سے روایت کیسے کرتے؟ اسی طرح حماد بن زید بھی 179ھ میں انتقال کر گئے تھے تو ان سے بھی بلا واسطہ ان کی روایت صحیح نہیں۔

یحییٰ بن اکثم کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ ایک درجہ بہت ہی بڑا ہے کیا بتلا سکتے ہو کہ وہ درجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ درجہ ہے جس پر اے امیر المومنین آپ ہیں۔

خلیفہ نے فرمایا تم اس درجہ کو نہیں پہچانتے میں ہی جانتا ہوں سب سے بڑے درجے والا وہ ہے جو ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا ہو اور کہہ رہا ہو۔

حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله ﷺ

میں نے کہا امیر المؤمنین کیا اس کا درجہ آپ سے بھی افضل ہے حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی کی اولاد ہیں اور مسلمانوں کے بادشاہ ہیں؟ کہا ہاں تجھ پر افسوس ہے یقیناً وہ مجھ سے بہت بہتر ہے اس لئے کہ اس کا نام رسول اللہ ﷺ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ کبھی نہ مرے گا اور ہم مر جائیں گے یہ علماء باقی رہیں گے جب تک کہ دنیا باقی ہے۔

ابن ابوالحنا جبر کہتے ہیں ہم بغداد میں یزید بن ہارون رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے اور لوگ بھی وہاں جمع تھے بادشاہ متوکل کی سواری لشکر سمیت وہاں سے گذری انہیں دیکھ کر بادشاہ کہنے لگے۔

حقیقی بادشاہ یہ ہے

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں خشمہ کی اس روایت میں وہم ہے اور یہ روایت غلط ہے اس لئے کہ یزید بن ہارون 206ھ میں انتقال فرما گئے اور بادشاہ متوکل 207ھ میں پیدا ہوا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بادشاہ مامون کا ہو۔ واللہ اعلم۔

ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے جس چیز کی خواہش ہوئی وہ پوری ہوئی مگر ایک تمنا باقی رہ گئی وہ تمنا حدیث کی ہے کاش کہ میں ایک کرسی پر بیٹھتا اور مجھ سے پوچھا جاتا کہ آپ سے کس نے حدیث بیان کی اور پھر میں سند بیان کر کے حدیث سناتا۔

عمر بن حبیب عدوی قاضی نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں حدیث بیان نہیں کرتے۔ جواب دیا کہ ملک و خلافت کے ساتھ حدیث سنانا زریب نہیں دیتا۔

خلیفہ مامون الرشید تو ان تمام خلفاء بنو العباس سے زیادہ حدیث کی طرف راغب تھے اور حدیث کا مذاکرہ بکثرت کرتے تھے اور روایت کی انہیں بڑی حرص تھی انہوں نے اپنی خاص مجلس

میں اپنے خاص ہم جلسوں سے بہت سی حدیثیں بیان بھی کی ہیں حدیث کی املاء کے حافظ تھے عام مجلسوں میں جس میں عام لوگ جمع ہوتے تھے حدیث بیان کرتے تھے پہلے تو اس سے رکتے رہے لیکن بالآخر اس کا پختہ ارادہ کر لیا۔

یحییٰ بن اکثم قاضی سے ایک مرتبہ خلیفہ مامون نے فرمایا آج میرا ارادہ ہے کہ حدیث بیان کروں۔ میں نے کہا سبحان اللہ! امیر المومنین سے زیادہ اس کا اہل کون ہے؟ کہا اچھا منبر لگاؤ منبر پر بیٹھ کر حدیث بیان کرنی شروع کی۔

پہلی حدیث تو بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
امراء القیس کے ہاتھ میں قیامت کے روز جھنڈا ہوگا اور وہ تمام شاعروں کا پیشوا بن کر جہنم میں
جائے گا۔

پھر تقریباً سند کے ساتھ اسی طرح تیس حدیثیں بیان کیں پھر منبر سے اترے اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین بڑی پر لطف اور بابرکت مجلس رہی خاص و عام کو فائدہ ہوا۔ کہا یہ تو نہ کہو یہ حق تو محمدؐ شین ہی کا ہے میں دیکھتا رہا کہ لوگوں کو وہ لذت نہ آئی جو اہل حدیث کی حدیث کی مجلسوں میں انہیں حاصل ہوتی ہے۔

بادشاہ اسلام محمد بن سلیمان بن علی مسجد حرام میں آئے اور دیکھا کہ ایک محدث کے ارد گرد اہل حدیث کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں کا قدم میری گردن پر ہونا مجھے تخت سلطنت سے زیادہ محبوب ہے۔

﴿ حدیث کی مجلسوں اور اہل حدیث کی صحبتوں کے سرور کا بیان ﴾

مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے اہلحدیثو! تمہاری مجلس میں بیٹھنا مجھے اپنے گھر والوں میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہلحدیث کا ہر وقت حدیث کا تقاضا مجھے پریشان کر دیتا ہے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو مجھے اس سے زیادہ رنج و غم ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ اہلحدیث طلباء کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کچھ غصہ ہو جاتے ہیں تو محمد بن حفص کہتے ہیں کیا آپ پسند کریں گے کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کی تھوڑی دیر کی غیر حاضری بھی مجھ پر شاق گذرتی ہے۔

حماد بن زید کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ابو جبلہ نے کہا دیکھئے تو اہلحدیث مجھے کیسی تکلیف دیتے ہیں؟ میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے کہا ہم ابھی آتے ہیں اب میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ اب تک نہیں آئے۔

بشر بن حارث سے محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں آپ حدیث بیان نہیں کرتے فرمایا میں تو خود حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن جب تم چاہتے ہو تو بیان نہیں کرتا۔

یحییٰ بن ائثم قاضی فرماتے ہیں میں قاضی بھی بنا قاضی القضاۃ بھی بنا۔ وزیر بھی بن گیا اور بڑے بڑے عہدے حاصل کئے لیکن کسی چیز میں اتنا خوش نہیں ہوں جتنا اس میں کہ حدیث لکھنے والا مجھ سے کہے، آپ سے اللہ تعالیٰ خوش رہے آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں۔

قیس بن ربیع نے جب حدیث کے طالب علموں کا مجمع اپنے سامنے دیکھا تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے مدتوں کی تکلیفوں کے بعد یہ مبارک دن دیکھنا نصیب ہوا۔ معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی پونجی کسی شخص کے پاس حدیث سے بہتر اور افضل نہیں ہے۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اہل حدیث طلب حدیث کے لئے میرے پاس نہ آئیں تو میں ان کے گھروں میں جا کر انہیں حدیث سناؤں۔

آپ فرماتے ہیں میں خود کو بھی اور تمہیں بھی پوشیدہ خواہش سے ڈراتا ہوں یہ پوشیدہ خواہش ہی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس نہ آیا کرو۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر تم آنا بھی چھوڑ

فضائل اہل حدیث 71

دو تو میں خود تمہارے پاس آؤں اگرچہ ادھر ادھر کی باتیں ہی سناؤں۔

ابراہیم بن سعید جو ہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث رسول اللہ ﷺ میں بھی ایک پوشیدہ چاہت ہے۔ دیکھو نا! میں تم سے کہتا ہوں میرے پاس نہ آیا کرو حالانکہ چاہت یہ ہے کہ ضرور آتے رہو۔

تیسرا باب

﴿بزرگوں کے ان خوابوں کا ذکر جو انہوں نے الہمدیث کے فضائل و اکرام﴾

﴿میں دیکھے ہیں﴾

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نبوت تو گئی میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ خوشخبریاں باقی ہیں۔ اور وہ نیک خواب ہیں جنہیں مسلمان خود دیکھے۔ یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھایا جائے۔

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

(یونس: 63-64)

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی

آپ نے جواب دیا کہ وہ نیک خواب ہیں جنہیں خود مسلمان دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھائے جائیں۔

ایک شخص یزید بن ہارون رحمہ اللہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھتا ہے۔ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ فرماتے ہیں میرے لئے جنت مباح کر دی۔ پوچھتے ہیں قرآن کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ پوچھا پھر کس باعث؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔

جویریہ بن محمد مقرئ بصری، یزید بن ہارون رحمہ اللہ واسطی کو ان کے انتقال سے چار رات بعد

خواب میں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا میرے گناہ معاف فرما دیئے اور نیکیاں قبول کر لیں اور تکلیفیں ہٹا دیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کریم نے بڑا کرم کیا۔ میرے گناہ بخش دیئے اور مجھے جنت میں داخل کیا۔ پوچھتے ہیں آخر آپ کا اتنا اکرام کس نیکی پر ہوا؟ کہا اللہ کے ذکر کی مجلسوں کی وجہ سے، میری حق گوئی اور سچی باتوں کی وجہ سے، لمبی لمبی نمازوں اور فقر و فاقہ کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ پوچھا کیا منکر نکیر حق ہیں؟ کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں انہوں نے مجھے بیٹھا کر سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ میں اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑنے لگا اور کہنے لگا کیا مجھ جیسے شخص سے بھی سوال کیا جاتا ہے، میں یزید بن ہارون واسطی ہوں ساٹھ سال تک دنیا میں لوگوں کو حدیث پڑھاتا رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا ہاں! سچ ہے یہ یزید بن ہارون ہے اب آپ بے فکری سے دولہا کی طرح سو جائیے۔ آج کے بعد آپ پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔

پھر ایک نے مجھ سے کہا کیا تم نے جریر بن عثمان سے بھی روایت لی ہے؟ میں نے کہا ہاں اور وہ حدیث میں ثقہ تھے۔ اس نے کہا ہاں جریر تھے تو ثقہ لیکن وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے اللہ ان سے بھی بغض رکھے۔

ذکر یا بن عدی اپنے خواب میں امام ابن المبارک رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا طلب حدیث کے لئے جو سفر میں نے کئے تھے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔

اسی طرح کی ایک روایت بھی ہے ابو بکر اوی رحمہ اللہ کے ہم سبق جو حدیث کی طلب میں تھے ان کا انتقال ہو گیا۔

خواب میں انہیں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس نیکی پر؟ کہا حدیث کے طلب کرنے پر۔

فضائل اہل حدیث 74

محمد بن جلیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سلیمان شاذکونی رحمہ اللہ کو ان کی وفات کے بعد نہایت اچھی حالت میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ ابوایوب! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا کس نیکی پر؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔

حبیش بن مبشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے جنت کے دو دروازوں کے درمیان کی کل جگہ عنایت فرمادی پھر اپنی جیب سے ایک کتاب نکال کر کہا ان حدیثوں کے لکھنے کی برکت سے۔

ابو اسحاق رحمہ اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام ابوہام رحمہ اللہ کے اوپر قندیلیں لٹک رہی ہیں پوچھا یہ نورانی قندیلیں کیا ہیں؟ کہا یہ قندیلیں تو حدیث شفاعت بیان کرنے کی وجہ سے ملی اور یہ حوض کوثر کی حدیث کو روایت کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثوں کی وجہ سے ان بہت سی قندیلوں کا ملنا بیان فرمایا۔

خلف فرماتے ہیں میرے ایک دوست جو میرے ساتھ علم حدیث پڑھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انہیں اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے خوش و خرم ہیں میں نے کہا آپ تو وہی مسکین طالب علم ہیں جو میرے ساتھ حدیث پڑھتے تھے آج یہ نیا جوڑا آپ پر کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ حدیث لکھتا تھا جہاں کہیں محمد ﷺ کا نام آتا تھا میں اس کے ساتھ ہی ﷺ ضرور لکھتا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے جس سے اس خواب کی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ کہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی کتاب میں ﷺ لکھے جب تک اس کتاب میں لکھا رہے فرشتے اس کے

فضائل اہل حدیث 75

لئے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ساتھیوں کو خواب میں دیکھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ کہا کس بناء پر؟ فرمایا اپنی کتاب میں رسول اللہ ﷺ پر درود لکھنے کی وجہ سے۔

﴿ان روایتوں کا بیان جن سے کچھ لوگ مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں﴾
﴿اور ان کا صحیح مطلب﴾

1- مغیرہ فرماتے ہیں جو لوگ حدیث کی طلب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی نماز کم ہو جاتی ہے۔

ابوالحسن محمد کا قول بھی یہی ہے مغیرہ والی روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔

مصنف شیخ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغیرہ نے یہ فرمان اپنے اوپر قیاس کر کے فرمایا ہے شاید وہ نوافل بکثرت پڑھتے ہوئے جب حدیث کی تلاش میں انہیں دور دور جانا پڑا تو بکثرت نوافل ادا کرنے کا موقعہ نہ مل سکا تو انہوں نے یہ قول فرمایا۔ لیکن اگر خود مغیرہ اچھی طرح سوچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ طلب حدیث کی کوشش نفل نماز سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ سیدنا ابو عمران رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک نفل نماز کا ثواب زیادہ ہے یا حدیث کے لکھنے کا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ایک حدیث کا لکھنا رات بھر کی نماز سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔

امام ابن المبارک رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ نفل نماز کا ثواب حدیث کے بیان کرنے سے زیادہ ہے تو میں حدیث کا پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔
امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے طالب علمی نفل نماز سے بہت بہتر ہے۔

2- شعبہ رحمہ اللہ سے ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نماز سے بھی کیا تم اس سے باز نہ رہو گے؟

ابو خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ رحمہ اللہ کا مطلب ان لوگوں سے ہے جو حدیثیں سنتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ صرف روایت کی زیادتی کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ یا اور اسی طرح کے لوگ اس لئے کہ حدیث تو ذکر اللہ کی ہدایت کرنے والی ہے نہ کہ ذکر اللہ سے روکنے والی۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب امام شعبہ رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید شعبہ بہ کثرت نفلی روزے رکھتے ہوئے اور نفلی عبادتیں کرتے ہوئے جب طلب حدیث میں مشغول ہو گئے ہوں گے تو ان اعمال میں کمی واقع ہوئی ہوگی تو یہ قول کہا ہوگا۔

امام شعبہ کی نسبت ہرگز کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ حدیث کو طلب کرنا برا جانتے ہوں خود شعبہ رحمہ اللہ اس قدر علم حدیث میں منہمک رہتے تھے کہ محدثین انہیں امیر المومنین فی الحدیث یعنی حدیث میں مسلمانوں کا سردار سلطان کہا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ حدیث طلب نہ کرتے اور اسی میں مشغول نہ رہتے تو اس درجہ تک کیسے پہنچ سکتے؟ وہ تو پوری عمر طلب حدیث میں مشغول رہے انتقال تک یہی شغل رہا۔ حدیث کے جمع کرنے کی انہیں بہت حرص تھی۔ اس کے سوا ان کی دلچسپی کی اور کوئی چیز نہ تھی۔ وہ تو اپنے سے کم عمر اور کم درجے کے لوگوں سے بھی حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ہر ایک سنی ہوئی حدیث کی توجہ میں اور ہر ایک لفظ حدیث کی مضبوطی میں ان کی برتری اہل حدیث میں مسلم ہے۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ تو حدیث میں تمام ایمانداروں کے بادشاہ ہیں۔

بقیہ بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کی تو یہ حالت تھی کہ فرمایا کرتے تھے

﴿امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ایک ایسے قول کا صحیح مطلب﴾

اس کی دلیل میں یہ واقعہ سنئے کہ ایک مرتبہ بشر بن حارث اصحاب حدیث کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر فرماتے ہیں آخر تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب، ہم علم سیکھ رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کسی

دن ہمیں اس سے نفع پہنچائے۔ فرمایا سنو اور یاد رکھو! جس طرح دوسو درہم میں پانچ درہم زکوٰۃ نکالنی فرض ہے۔ اسی طرح دوسو حدیثیں سنکر پانچ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل نہ کیا تو دیکھنا کل قیامت کے دن یہ حدیثیں تم پر کیا ہوتی ہیں۔

امام شعمی سے بھی امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ قول مروی ہے اور انہوں نے یہ بھی اسی لئے فرمایا ہے کہ خوف تھا کہ کہیں حق حدیث ادا ہونے سے رہ نہ جائے۔ بلکہ امام شعبہ رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ میں اپنے اعمال میں سے کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا حدیث سے۔ کہ ایسا نہ ہو یہ میرے لئے جہنم میں جانے کا باعث ہو جائے۔

ابن عون رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں اس سے بلا عذاب و ثواب ہی چھوٹ جاؤں۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علم میں بڑھتا ہے وہ تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے۔ میں تو اگر علم سیکھتا ہی نہ تو میرے لئے آسانی ہو جاتی۔

امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ کاش کہ میرے سینے میں سے ہر ایک حدیث اور جن جن لوگوں نے مجھ سے حدیثیں سیکھیں ہیں ان سب کے سینوں میں سے وہ تمام حدیثیں چھن جاتیں۔

معانی ابن عمان سن کر یہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد اللہ! حدیث ہی تو صحیح علم ہے اور وہ ہی تو ظاہر سنت ہے جسے آپ نے خود پڑھ کر اوروں کو پڑھائی ہے۔ پھر آپ کا اپنے اور ان کے سینے سے محو ہو جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ فرمایا چپ رہو۔ تم نہیں جانتے قیامت والے روز مجھے کھڑا ہونا ہے اور اپنی ہر مجلس کا جواب دینا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس حدیث کے بیان کرنے سے تمہارا مقصد کیا تھا اور اس کے بیان سے کیا ارادہ تھا۔

امام سفیان رحمہ اللہ کے اس جواب نے آپ کی مراد صاف بیان کر دی اور معلوم ہو گیا کہ انہیں

اپنے نفس پر خوف تھا، اور اسی لئے اس قسم کی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام سفیان رحمہ اللہ کے اس ڈر اور خوف کی اور اس تنہا کی کہ کاش میں اس فن میں دخل ہی نہ دیتا یہ وجہ ہے کہ اسناد کی محبت اور روایت کی شہرت نے ان پر یہاں تک غلبہ کیا تھا کہ وہ ضعیف راویوں سے اور ان لوگوں سے بھی جن کی روایت محدثین نہیں لیتے تھے، روایت کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایسا بھی کر جاتے تھے کہ ان میں سے جو کوئی اپنے نام سے مشہور ہو اس کا نام چھوڑ کر اسکی کنیت بیان کر دیتے تھے تاکہ اُس کی روایت میں قدرے پوشیدگی ہو جائے۔ اس وجہ سے انہیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو۔ اسلئے کہ اس طرح کی پوشیدگی اور ایسے ضعیف راویوں سے روایت کرنی ائمہ اور علماء نے منع کی ہے۔

امام یحییٰ فرماتے ہیں کہ امام سفیان رحمہ اللہ پر حدیث کی روایت کی خواہش غالب آگئی تھی۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے امام سفیان رحمہ اللہ پر کوئی خوف نہیں سوائے حدیث کی چاہت کے خوف کے۔

عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ امام سفیان رحمہ اللہ اس قدر خشوع و خضوع میں مشغول ہوتے گویا وہ میدان حساب میں کھڑے ہیں۔ ہماری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان سے کوئی بات کریں۔ لیکن جہاں ہم نے حدیث کا ذکر چھیڑا ان کا وہ حال جاتا رہا بس اب تو حدیثنا حدیثنا کہنا شروع کر دیتے اور بکثرت حدیثیں بیان کرتے۔

امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان رحمہ اللہ کی بزرگی میں تو کلام نہیں لیکن ایک بات ان میں تھی کہ ہر کسی شخص سے حدیث قبول کر لیا کرتے تھے۔

محمد بن عبد اللہ بن نمیر سے امام سفیان رحمہ اللہ کے اس قول کی وجہ دریافت کی جاتی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس پر سوائے حدیث کی روایت کے اور کوئی خوف ہی نہیں؟
تو جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے ضعیف راویوں سے حدیثیں لیکر بیان کی تھیں اب ڈرتے

فضائل اہل حدیث ۱ x x x x x x x x x x x x x x x x 80
اور خوف کھاتے تھے۔

﴿امام مغیرہ بن مقسم ضعی کے ایسے ہی قول کا صحیح مطلب﴾

4- آپ فرماتے ہیں علم حدیث پہلے بہترین لوگ سیکھا کرتے تھے۔ لیکن اب تو برے لوگوں نے اس فن میں حصہ لیا۔ اگر میں پہلے سے ہی یہ جانتا تو میں حدیثیں بیان ہی نہ کرتا۔
امام خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ طالب علم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو حدیثیں لکھنے کو آ بیٹھے ہیں۔ محدث کی صحبت بہت کم اٹھاتے ہیں۔ استاد کے اخلاق و عادات کا ان پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا۔ ممکن ہے مغیرہ نے بعض ایسے ہی لوگوں کو دیکھ لیا ہو اور ان کی بے ادبی اور بری عادتوں سے خفا ہو کر یہ فرما دیا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ فی الواقع ایسے سست لوگ تقریباً ہر علمی مجلس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے حدیث کا ادب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امام لیث بن سعد رحمہ اللہ ایسے ہی لوگوں کو اور ان کی ایسی ہی حرکتوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم تھوڑے سے ادب و عمل کے زیادہ محتاج ہو۔

امام عبید اللہ بن عمر رحمہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم نے علم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ علم کی رونق گھٹا دی۔ اگر ہمیں اور تمہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پالیتے تو سخت سزا دیتے۔

امام سفیان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم حدیث بھی بھلائی میں سے ہوتا تو اور بھلائیوں کی طرح یہ بھی کم ہو جاتا۔

آپ کا قول ہے کہ تمام بھلائیاں گھٹتی جا رہی ہیں اور یہ حدیث کی روایت بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اگر یہ بھی بھلائی ہوتی تو یہ بھی گھٹتی۔

بعض لوگوں نے اس مضمون کو اپنے شعروں میں بھی ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں ہر بھلائی کم ہوتی جاتی ہے اور گھٹ رہی ہے لیکن حدیث بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ بھی بھلائی ہوتی تو اس کا حال بھی اور بھلائیوں کی طرح ہوتا لیکن حدیث کی راہ کا شیطان بڑا سرکش ہے۔ ابن معین لوگوں پر جرح تو کرتے ہیں لیکن آخر اللہ کی بارگاہ میں ان سے سوال ہوگا۔ اگر سچ نکلی تب بھی حکم میں غیبت کے ہے۔ اور اگر جھوٹ ہے پھر تو حساب بڑا سخت ہے۔

علامہ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاعر کا یہ قول بالکل لغو ہے۔ علمائے کرام کا راویان حدیث پر جرح کرنا غیبت نہیں۔ بلکہ دراصل یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے اور اس جرح کے تو ظاہر کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ کیونکہ اس کو ظاہر کرنا فرض ہے اور چھپانا حرام ہے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ، سفیان بن سعید رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے حافظے میں نقصان ہے یا اس پر حدیث میں کوئی تہمت ہے تو کیا اسے ظاہر کرنا چاہیئے؟ سب بزرگوں نے بالاتفاق فرمایا کہ اسے ضرور ظاہر کر دو۔

ابومسہر سے بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر حدیث کا کوئی راوی غلطی کرنے والا ہو یا اس پر جھوٹ کا خیال ہو۔ یا ہیر پھیر کر دیتا ہو تو اس کی یہ حالت بیان کر دینی چاہیئے؟ کہا ہاں ضرور ظاہر کر دو پوچھا گیا پھر یہ غیبت تو نہ ہوگی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔

چونکہ اس بحث کو ہم اپنی کتاب الکفایۃ میں بیان کر چکے ہیں اس لئے اب یہاں اس سے زیادہ لکھنا ضروری نہیں جانتے۔ اب ہم پھر اصل بحث کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سفیان رحمہ اللہ کے پہلے قول کا مطلب غریب اور منکر حدیثیں ہیں۔ نہ کہ معروف اور مشہور حدیثیں۔ اس لئے کہ شاذ روایتیں اور منکر حدیثیں بھی بکثرت ہیں۔ اور امام سفیان رحمہ اللہ ان کے بیان کرنے میں خیر و برکت نہیں جانتے تھے۔ اور ثقہ لوگوں کی روایت اس کے خلاف پاتے تھے۔ اور بزرگان سلف اور فقہائے امت کا عمل بھی اس کے خلاف پاتے تھے۔ اس لئے کہ ان کے بیان

فضائل اہل حدیث ۱ * * * * * 82

سے روکتے تھے۔ سو یہ قول اور بزرگوں سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی اس میں مشغول ہونا اور اپنا وقت اس میں کھونا مکروہ بتایا ہے۔

ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف غریب کلام اور غریب حدیثوں کو مکروہ جانتے تھے۔
امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں غریب حدیثیں کثرت سے بیان نہ کرو جنہیں سمجھدار علماء نے چھوڑ رکھا ہے ورنہ آخرش کدّاب کہلاؤ گے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ ان بے سمجھ لوگوں کو دیکھو! حدیث تو چھوڑ دی اور غریب روایتوں کے پیچھے پڑ گئے۔

امام سفیان رحمہ اللہ کے قول کو صحیح حدیثوں اور معروف سنتوں پر عمل کرنا صراحۃً انصاف کا خون کرنا ہے۔ بھلا اتنے بڑے امام حدیث کی نسبت یہ گمان بھی کوئی بھلا آدمی کر سکتا ہے؟ پھر بالخصوص اس وقت جبکہ امام سفیان رحمہ اللہ حدیث کو مسلمان کا ہتھیار بتلاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیئے اپنی اولاد کو مار پیٹ کر بھی حدیث پڑھائے۔ ورنہ اللہ کے ہاں اس سے باز پرس ہوگی۔

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا کوئی عمل حدیث سے افضل نہیں۔ کسی نے کہا کہ جناب پڑھنے والوں کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ پڑھنا ہی نیت ہے۔ بلکہ آپ تمام اعمال سے افضل نیک نیکی کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنا بتلاتے ہیں۔ خود حدیثیں بیان کرتے پھر خوش ہو کر فرماتے نہریں بہہ نکلیں۔ چشمے جاری ہو گئے۔ کبھی کبھی حدیث بیان کر کے فرماتے لوگو! تمہارے لئے ایک ایک حدیث عسقلان اور منصور کی بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے۔

فضائل اہل حدیث 83

﴿امام مالک رحمہ اللہ اور عبد اللہ بن ادریس رحمہ اللہ کے ایک ایسے ہی قول﴾

﴿کا صحیح مطلب﴾

5۔ عبد اللہ بن ادریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو کہا کرتے تھے کہ روایت حدیث کی زیادتی کی دھن بھی ایک قسم کا جنون ہے۔

طنفسی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول بالکل سچ ہے۔

6۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ روایت حدیث کی زیادتی کرنے والے اکثر مراد نہیں پاتے۔

عبدالرزاق رحمہ اللہ سے بھی زیادتی روایت کے بارے میں اسی طرح کا ایک قول محفوظ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو جانتے تھے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن وہ تو بری چیز ثابت ہوئی۔

ان دونوں بزرگوں کے کلام کا مطلب بھی وہی ہے جو امام سفیان رحمہ اللہ کے قول کا مطلب تھا۔ یعنی یہ مذمت شاذ روایتوں کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ابن ادریس رحمہ اللہ غریب حدیثوں کی بہ کثرت سندیں طلب کرنے اور منکر حدیثوں کی سندیں جمع کرنے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ جیسے طائر والی اور خود والی۔ اور جمعہ کے غسل والی۔ اور علم اٹھ جانے کی خبر والی۔ اور درجات والوں کے بیان والی۔ اور رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے کی مذمت والی۔ اور بغیر ولی کے نکاح نہ ہونے کے مسئلہ والی۔ اور ایسی ہی اور حدیثیں جن کی سندیں جمع کرنے کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان سندوں میں صحیح سندیں بہت ہی کم ہوتی ہیں اور یہ کام اکثر نو عمر مبتدی کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ صرف ان سندوں کو حفظ کرنا اور ان روایتوں کو آپس میں بیٹھ کر بیان کرنا ہی جانتے ہیں بلکہ ان میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اور کوئی صحیح حدیث یاد ہی نہیں ہوتی۔ انہیں تو غریب حدیثوں کے مختلف طریق اور عجیب اسنادیں ہی یاد ہوتی ہیں۔ جن میں سے اکثر تو

موضوع اور مصنوع ہوتی ہیں جن سے کوئی نفع نہیں۔ یہ لوگ اپنی عمر کا ایک حصہ اسی میں کھپا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اکثر طالب علم نہ تو حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں نہ ان میں جو احکام ہیں انہیں جان سکتے ہیں۔ غرض استنباط اور اجتہاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے زمانے کے فقیہ کہلانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ لوگ بھی انہی کے قدم بہ قدم چلتے ہیں۔ محدثین سے حدیث سننا انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا بلکہ مشکمیں کی تصنیفات میں لگے رہتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے اپنے فائدے کی چیز کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے اور بیکار کی دھن میں لگ گئے ہیں۔

ابوزر عرازی رحمہ اللہ کو ابو ثور رحمہ اللہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ آپ کے شاگرد علم حدیث میں ماہر رہے لیکن اب تو وہ اس کام میں لگ گئے ہیں کہ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ والی حدیث کی کتنی سندیں ہیں؟ اس کے پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے اور لوگ ان پر غالب آ گئے۔

﴿سليمان بن مهران اعلمش رحمه الله﴾ کے اقوال کا صحیح مطلب ﴿﴾

7۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک روٹی کا ایک ٹکڑا خیرات کر دینا ستر حدیثیں بیان کرنے سے افضل ہے ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ کوئی حدیث سنائیے؟ تو فرمایا ایک ہڈی یا ایک روٹی خیرات کر دینا میرے نزدیک تمہیں دس حدیثیں سنانے سے افضل ہے آپ کا یہ قول بھی ہے کہ دنیا میں اس قوم سے بری کوئی قوم نہیں۔

ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں پہلے تو میں نے اس قول کو بڑا برا جانا۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں کی ایسی حرکتیں دیکھیں تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا۔

اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان لوگوں پر چھوڑ دیتا۔

علامہ حافظ ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام اعمش رحمہ اللہ کے

اخلاق ایسے بہت زیادہ اچھے نہ تھے۔ اور حدیثیں بیان کرنے میں ان کی طبیعت میں بخل بھی تھا۔ اور روایت کرنے میں ذرا تنگ دل تھے ان کی یہ باتیں اہل علم میں مشہور ہیں۔

ایک مرتبہ رقبہ بن مصقلہ ان کے پاس آتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں تو منہ چڑھا لیتے ہیں رقبہ بھی غصہ ہو کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم! تمہاری تو ہر وقت تیوریاں ہی چڑھی رہتی ہیں۔ بہت جلدی دل بھاری کر لیا کرتے ہو۔ آنے جانے والوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں کسی نے تم سے کچھ پوچھ لیا تمہاری ناک میں رائی کے دانے چڑھ گئے۔

عیسیٰ بن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک حدیث کا طالب علم امام اعمش رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لئے آ رہا تھا۔ لوٹتے وقت انہیں راستہ سے ہٹا کر دور لے جا کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اور کہا ابو محمد! جانتے بھی ہو اس وقت تم کہاں ہو؟ اس وقت تم فلاں جگہ ہو۔ اب میں تمہیں یہاں سے لے کر تمہارے گھر نہیں پہنچاؤں گا۔ جب تک کہ اتنی حدیثیں مجھے نہ سناؤ جتنی میری ان تختیوں میں میں لکھ سکوں؟ مجبوراً انہیں کہنا پڑا کہ اچھا لکھو جب وہ تختیاں ختم کر چکا تو ان کو حفاظت سے رکھ لیا۔ اور ان کا ہاتھ تھام کر لے چلے۔ جب کوفہ میں داخل ہو گئے تو اس طالب علم نے اپنی تختیاں اپنی جان پہچان والے ایک آدمی کو دیدیں۔ جب امام اعمش کا گھر آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور لوگوں سے کہا اس نالائق سے تختیاں چھین لو۔ اس نے کہا ابو محمد! وہ تختیاں تو اور جگہ پہنچ گئیں۔ جب انہیں بالکل ناامیدی ہو چکی تو کہنے لگے میں نے اس وقت جتنی حدیثیں تم سے بیان کی ہیں سب جھوٹی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو محض آپ کی دھمکی ہے۔ آپ جیسا خدا ترس آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔

﴿اور واقعہ سنئے﴾

اعمش رحمہ اللہ کسی کو اپنے پاس بیٹھنے ہی نہ دیتے تھے۔ اگر کوئی بیٹھ جائے تو بات چیت موقوف کر دیتے تھے۔ لیکن ایک صاحب تھے جو اعمش کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چپکے سے آکر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے امام اعمش بھی سمجھ گئے کہ آج پہلو میں کوئی بیٹھا ہے تو بار بار اس طرف تھوک اور کھنکار ڈالنے لگے۔ لیکن وہ غریب چپ چاپ بیٹھا ہی رہا کہ اگر انہیں پوری طرح یقین ہو جائے گا تو ابھی حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔

ایک مرتبہ حفص بن غیاث نے ایک حدیث کی سند امام اعمش رحمہ اللہ سے پوچھی تو اس کی گردن پکڑ کر دیوار سے دے ماری۔ اور کہا یہ سند ہے اس کی۔

جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اعمش رحمہ اللہ کے پاس آتے تھے۔ ان کا کتا ہمیں بڑی ایذا دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو پھر ہماری بھیڑ لگنے لگی تو رو کر فرمانے لگے۔ بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا مر گیا۔

امام اعمش کے ایسے واقعات بکثرت ہیں لیکن وہ باوجود اس بے رخی کے حدیث میں ثقہ تھے، روایت میں عادل تھے، سنی سنائی حدیثوں کے ضبط کر لینے والے تھے۔ حافظہ کے بڑے زبردست تھے یہی وجہ تھی کہ لوگ سفر کر کے دور دراز سے ان کے پاس آتے تھے اور حدیث سننے کیلئے ایک بھیڑ بھاڑ لگ جاتی تھی۔ کبھی وہ حدیث بیان کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب ادھر سے اصرار ہوتا تھا تو آپ بگڑتے تھے اور پھر انکی مذمت اور برائی کرتے تھے۔ لیکن جب غصہ چلا جاتا جوش ٹھنڈا ہوتا تو غضب کو صلح سے اور مذمت کو مدح سے بدل ڈالا کرتے تھے۔

آپ کا قول ہے کہ جب میں کسی شیخ کو دیکھتا ہوں کہ وہ حدیث نہیں لکھتا تو مجھے سخت غصہ آتا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے اسی طرح جب میں کسی طالب علم کو دیکھتا ہوں کہ وہ حدیث طلب نہیں

کرتا تو جی چاہتا ہے کہ اسے سخت سزا دوں اور جوتیاں لگاؤں۔

فرماتے ہیں کہ اگر میں بقال (سبزی فروش) ہوتا تو خیر تم مجھ سے پرے رہتے۔ یاد رکھو! اگر یہ حدیثیں نہ ہوتیں تو ہم میں اور بقال میں کوئی فرق نہ تھا۔ خود آپ تمام عمر یعنی مرتے دم تک علم حدیث کی طلب میں رہے۔ جب غصہ میں ہوتے تب تو فرما دیتے کہ اے اہل حدیث! میں تم سے نہ تو حدیث بیان کروں گا نہ تمہاری عزت افزائی کروں گا نہ تم اس لائق ہونے تم پر اس کا کچھ اثر ہوتا میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جب وہ اصرار کرتے اور ان کا غصہ بھی جاتا رہتا تو فرماتے ہاں! لو حدیثیں سناتا ہوں عزت و اکرام کرتا ہوں تم تو ہو ہی تھوڑے اللہ کی قسم! تم تو ان عوام الناس میں خالص سرخ سونے کی حیثیت رکھتے ہو۔

﴿امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے﴾

8- وہ بھی کبھی تو غصہ میں کہہ دیتے کہ اصحاب الحدیث بڑے برے لوگ ہیں۔ وہ تو مجنون ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ پھر جب غصہ ہٹ جاتا تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگتے کہ اصحاب الحدیث سب لوگوں سے زیادہ بھلے لوگ ہیں۔ اور ایسے اور ایسے بھلے آدمی ہیں۔

ابن عمار نے پوچھا جناب یہ کیا؟ ابھی تو برا کہتے تھے ابھی بھلا کہنے لگے۔ کہا دیکھو تو میں انہیں بھلا کیوں نہ کہوں یہ لوگ ایک سنی ہوئی حدیث کو مجھ سے خاص کر میری زبان سے سننے کو آتے ہیں۔ میری ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ سہتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو بغیر مجھ سے سننے بھی باہر جا کر کہہ سکتے تھے کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے یہ حدیث بیان کی۔ لیکن یہ ان کی کمال دیانت داری ہے کہ بے سنہ ہرگز روایت نہیں کرتے۔

محمد بن ہشام عیسیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ہم آپ کے پاس آتے اور آپ کی طبیعت خوش ہوتی تو ہمیں دیکھتے ہی خوش ہو کر فرماتے۔ روئے زمین پر تم سے بہتر کوئی شخص نہیں تمہاری وجہ

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فضائل اہل حدیث 89

الفاظ حدیث ہی بیان کر دیجئے۔ اب انہوں نے بلا سند ایک حدیث سنادی۔

ایک مرتبہ ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب! حدیثیں سنائیے تو صاف انکار کر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا ایک ہی سہی۔ تو فرماتے ہیں اچھا سنو! مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ رحمہ اللہ کو مٹکا لڑھکاتے ہوئے دیکھا ہے۔

دیکھا آپ نے۔ ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کو کوئی حدیث بیان کرنی منظور نہ تھی اور اصحاب حدیث مجبور کر رہے تھے تو ایک ایسی بات بیان کر دی جس میں نہ تو کوئی بھلائی ہے نہ سننے والوں کو نفع بخش ہے۔

﴿امام ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کا کھلے لفظوں میں اہل حدیث کے فضائل﴾

﴿بیان کرنا﴾

حمزہ بن سعید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ یحییٰ بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے زانو پر مار کر فرمایا اے یحییٰ! دنیا میں کوئی قوم اہل حدیث سے افضل نہیں۔

سعید بن یحییٰ بن ازہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے۔ میں نے اہل حدیث سے افضل کسی قوم کو نہیں دیکھا۔ دیکھئے! وہ لوگ ایک ایک کلمہ سننے کے لئے میرے پاس کئی کئی مرتبہ آتے ہیں حالانکہ سننے بغیر بھی اگر میرا نام لے کر روایت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

ہناد بن سری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن امام ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے اور اہل حدیث کا ایک مجمع اپنے دروازے پر دیکھ کر فرمانے لگے۔ یہ بہترین لوگ ہیں اگر یہ چاہتے تو لوٹ جاتے اور کہہ دیتے ہم نے سنا۔

فضائل اہل حدیث 90

ہم نے اپنی اس کتاب میں حدیث اور اہل حدیث کی (یعنی جو لوگ کہ حدیث کے حفظ کرنے اور اس کے بیان کرنے کیساتھ مخصوص ہیں) بیان کر دی ہے۔ سننے اور یاد رکھنے والوں کو یہ کتاب کافی ہے اور اس مضمون کی دوسری کتابوں سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ اس کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مستقل کتاب اس مضمون پر لکھنے والے ہیں کہ حدیث کے روایت کرنے والوں اور اسے حفظ کرنے والوں کے اخلاق و آداب کیا ہونے چاہئیں؟ ان پر کیا واجب ہے؟ کیا مستحب ہے کیا مکروہ ہے؟

اسلئے کہ کسی اہل حدیث کو اس کے معلوم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ان کاموں پر ہماری مدد فرمائے اور خطا اور لغزش سے ہمیں بچائے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

والحمد لله حق حمدہ و صلوتہ علی محمد و آلہ و صحبہ و سلامہ.

